

بارہ رسمیت الاول

در عید میلاد انبی کی شرعی حیثیت

افادات

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

انتخاب و ترتیب

محمد زید مظاہری ندوی

استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

BestUrduBooks.wordpress.com

ادارہ افادات اشرفیہ دوبگا، ہردوئی روڈ، لکھنؤ

ذخیرہ افادات

نام کتاب	—	۱۲ اربیع الاول اور عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت
افادات	—	حکیم الاسلام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
مرتب	—	مفتي محمد زید مظاہری ندوی
صفات	—	۱۲۰
ناشر	—	ادارہ افادات اشرفیہ سہتو رباندہ
اشاعت اول	—	۱۳۱۹ھ
خوش نویں	—	محمد نسیم القاسمی سیتاپوری
	—	قیمت

ملنے کے پتے

- ۱ ادارہ افادات اشرفیہ سہتو رباندہ یوپی ۲۱۰۰۱
- ۲ مکتبہ نعیمیہ دیوبند ضلع سہارپور یوپی ۲۳۸۵۵۳
- ۳ مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھوون ضلع منوفنگر یوپی
- ۴ مجلس دعوت احتی ہردوئی یوپی
- ۵ حاجی منیار احمد صدیقی ہمدرد بکٹلیو پکھرایاں ضلع کانپور

پن ۳۰۹۱۱

فہرست مصائب

عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت

صفحات	عنوانات	صفحات	عنوانات
۱۹	کی ولادت کے سبب ہوئی ماہ ریح الاول زیادہ فضل		تاریخ و عرض مرتب
۲۰	ہے یا رمضان المبارک { ریح الاول میں خصوصیت کے ساتھ کوئی عبارت	۱۳	باب
۲۲	ثابت ہنیں { ماہ ریح الاول میں خصوصیت کے ساتھ بمالس منعقد کرنا	۱۵	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
۲۴	" { ریح الاول میں تقریر کا اہتمام حضرت تھانوی کے ریح الاول میں وعظ فرمانے کی وجہ	۱۶	اول مخلوق اشتر نوری
۲۵	باب اس امت پر مسے بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے	"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر
۲۶	حضرت تھانوی کے ریح الاول میں وعظ فرمانے کی وجہ	۱۸	کیوں ہے
			حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
			حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شفقت
			باب
			ریح الاول کی فضیلت
			ریح الاول کی فضیلت پہلے سے مخفی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف

صفیحات	عنوانات	صفیحات	عنوانات
	ممنوع ہے] باب (۲)	۲۸	ن لاتے تو ہم بالکل محروم] بہتے
۳۱	ذکر نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام مجت کا تقاضایہ ہے کہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے	"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر شکریہ اور اس پر فرجت
۳۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا ذکر عبادت ہے	۳۰	ضروری ہے
۳۳	مجت کا تقاضا	۳۲	آیت کی تفسیر
"	ایک حکایت	۳۳	اس عظیم نعمت پر خوشی کا طریقہ
۳۵	پسچی مجت کی علامت مجت میں دکھلا وانہیں ہوتا	۳۴	اس نعمت پر خوشی کا صحیح طریقہ
"	خود آپ کا فرمان ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے	۳۵	ہم پر یہ بہتان ہے کہ ہم ذکر ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع
۳۶	مجھ سے مجت کی بغیر اطاعت کے مجت کا	"	کرتے ہیں
"	دعویٰ جھوٹا ہے		حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
۳۷	حُجَّت رسول کا تقاضا اور ہمارے دل کا چور	۳۷	تشریف آوری پر ہم زیادہ خوشی کا حق ادا کرتے ہیں
	خوشی نانے، مٹھائیاں تقسیم کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم	۳۸	النصاف کی بات، حد سے تجاذب کرنا بہر عبادت میں

صفحات	عنوانات	صفحت	عنوانات
۶۳	عید منانا ایک شرعی حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا مذہبی خوشی ہے	۵۲	کا حق ادا نہیں ہوتا] باب (۵) بارہ ربع الاول کی سجاوٹ مسلمانوں کی بے حصی
۶۴	شریعت میں صرف دو عدیں ہیں تیسری کوئی عید نہیں]	۵۳	عید میلاد النبی کی جدت پسندی] اور اس کا سیاسی رنگ] ربيع الاول کے منکرات اور علماء، اہل سنت والجماعت]
۶۵	باب (۶) عید میلاد النبی کا شرعی حکم کتاب ائمہ کی روشنی میں]	۵۴	باب (۶) عید میلاد النبی کی رسم عید میلاد النبی کی ایجاد عید میلاد النبی شرعی دلائل کی روشنی میں]
۶۶	پہلی حدیث	"	بدعت کی پہچان
۶۷	دوسری حدیث	۵۸	سنن و بدعت کا شرعی ضابط
۶۸	تیسرا حدیث	۵۹	جس سے ہر عمل کے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سنن ہے]
۶۹	چوتھی حدیث	"	یا بدعت ایجاد کردہ چیزوں کی پہلی قسم
۷۰	عید میلاد النبی کی ممانعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے]	۶۰	ایجاد کردہ چیزوں کی دوسری قسم
۷۱	عید میلاد النبی اور اجماع امت	"	
۷۲	عید میلاد النبی قیاس اور جہاد	۶۲	

عنوانات	صفیحات	عنوانات	صفیحات
آیت مائدہ سے استدلال اور اس کا جواب	۸۶	کی روشنی میں ابن تیمیہ اور ابن قیم عید میلاد النبی اصول فقہ کی روشنی میں	۷۷
ایک اور آیت سے استدلال اور اس کا جواب	۸۸	عید میلاد النبی عقلی دلائل کی روشنی میں	"
ایک حدیث سے استدلال اور اس کا جواب	۹۰	الہامی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ اور بر تحفہ منانا	۷۹
ایک اور حدیث سے غلط استدلال اور اس کا جواب	۹۲	آپ کی توبین ہے	۸۱
یوم پیدائش بدھ ربيع الاول و پیر کے دن روزہ رکھنا	۹۳	باب (۸)	
ابوالہب کے قصہ سے استدلال اور اس کا جواب	۹۴	عید میلاد النبی کے قائلین جوائز کے دلائل اور ان کا	۸۳
عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ ولادت سے استدلال اور اس کا جواب	۹۵	تحقیقی جواب اہل بدعت سے گفتگو کا طریقہ	۸۴
مصلحت کے بہانہ سے بدعت کا ارتکاب جائز نہیں	۹۶	کسی آیت و حدیث سے مروجع عید میلاد النبی کا استدلال	"
باب (۹)		درست نہیں ایک آیت سے استدلال	۸۵
شوکت اسلام کا شیہ عید میلاد النبی بدعت اور شک فی النبوة ہے	۹۹	اور اس کا جواب	۸۵

صفحات	عنوانات	صفحات	عنوانات
١٠٨	حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بزر پر قیاس کر کے تنقیص کرنے کفر ہے	١٠٩	اسلام کی شوکت اسلامی احکام سے ہے
"	شانِ رسالت و عدالت سے بڑھانا بھی کفر ہے	١٠١	اسلام کو عارضی شوکت کی ضرورت نہیں
"	آپ کا فرمان ہے کہ مجھے حد سے آگے نہ بڑھا فاؤ	١٠٢	اسلام کی سادگی ہی اسلام کمال ہے
"	میری تعریف میں غلوت کرو حضرور کی عظمت و شفقت	١٠٣	اسلاف کا طرزِ عمل
١١٠	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارتکے ساتھ اخوة و همدردی	١٠٥	باب (۱۰) عظمتِ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم نامِ مخلوق میں حضرور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سب سے
١١٢	باب (۱۱) حقوقِ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجت کے تین اسباب	١٠٦	برتر میں زین کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے متصل ہے
١١٣	حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق ہیں	١٠٧	عرشِ الہی سے افضل ہے ہمارا اور ہمارے مشائخ
١١٤	حقوق کی تفصیل مجت کا تقاضا یا ہے کہ اطاعت کی جائے	١٠٨	کا عقیدہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخلوق کے برابر قرار دے
١١٥	تبرکات کی زیارت	"	وہ کافر و ملعون ہے

رَا لَئِي عَالِيٌ

عَارِفُ بِاللَّهِ حَضْرَ مُولَانَا فَارِي سَيِّدِ صَدِيقِ اَحْمَدِ حَسَابٍ
بَانِدُوی مَذْلُولٌ عَالِيٌ نَاظِرٌ جَامِعَتْ بَعْزٍ هَتُورَا بَانِدُوی (یوپی)

نَحْمَدُهُ وَنَصْلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ۖ

عَلِیِ الْاَمْرِ حَضْرَتْ مُولَانَا وَمَقْتَدَا النَّاَشَاهِ اَشْرَفُ عَلَى تَعْنَانُوی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَے
بَارے میں بِزَمَانِ طَالِبِ الْعِلَّیِ اَکَا برَاتِ اَنْتَ نے اِس کا اندازہ لگایا تھا کہ آگے چل کر سندار شاد
پُر شَلَمْ ہو کر مر جع خلائی ہوں گے اور ہر عام و خاص ان کے فیوض و برکات سے مشتمل
ہوں گے۔ چنانچہ حضرت اقدس کے کارہائے نمایاں نے اساطین امت کے اِس
خیال کی تصدیق کی، کہنے والے نے پُر کہا ہے۔ ”قَلْنَدِ رَهْرَچِ گُویدِ دِیدِ گُوید“
خداوند قدوس نے حضرت والا کو تجدید اور اجیاد سنت کے جس اعلیٰ مقام
پر فائز فرمایا تھا اس کی اس دور میں نظر نہیں۔

آج بھی مخلوق حضرت کی تصنیفات و ارشادات عالیہ اور مسواعظ حسنہ سے
فیضیاب ہو رہی ہے۔ حضرت کے علوم و معارف کے سلسلہ میں مختلف عنوان سے
ہندوپاک میں کام ہو رہا ہے، لیکن بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ الشہزادہ نے محض اپنے
فضل سے عزیزی مولوی مفتی محمد زید سلمہ مدرس جامع عربیہ ہتُورا کو جس زمانے انداز سے
کام کی توفیق عطا فرمائی، اس جامیعت کے ساتھ ابھی تک کام نہیں ہوا اما اس سلسلہ کی
تین درجن سے زائدان کی تصنیفیں ہیں۔ بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اس کو قبولیت
تامہ عطا فرمائے اور مزید توفیق نصیب فرمائے۔

احقر صدیق احمد غفرلہ

خادم جامع عربیہ ہتُورا باندہ (یوپی)

رائٹرے عالیٰ

منکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مفتولہ العالیٰ

فاضل عزیز مولوی محمد زیدی مظاہری ندوی مدرس جامعہ عربیہ سہ تو را (ببارک اللہ فی حیاتہ و فی افادتہ) نے جو حضرت حکیم الامت کے افادات و ارشادات اور تحقیقات و نظریات کو مختلف عنوانوں اور موضوعات کے ماتحت اس طرح جمع کر رہے ہیں کہ حضرت کے علوم و افادات کا ایک دائرة المعارف (انسائیکلو پیڈیا) تیار ہوتا جا رہا ہے....

ان خصوصیات اور افادیت کی بناء پر عزیز گرامی قدر مولوی محمد زید مظاہری ندوی نہ صرف تھانوی اور دیوبندی حلقة کی طرف سے بلکہ تمام سلیم الطبع اور صحیح الفکر حق شناسوں اور قدردانوں کی طرف سے بھی شکریہ اور دعاء کے مستحق ہیں۔

اور اسی کے ساتھ اور اس سے کچھ زیادہ ہی داعی الی اللہ اور عالم رب ای مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی سرپرست جامعہ عربیہ سہ تو را باندہ (یوپی) اس سے زیادہ شکریہ اور دعاء کے مستحق ہیں جن کی سرپرستی اور نگرانی، ہمت افزائی اور قرآنی کے سایر میں ایسے مفید اور قابل قدر کام اور ان کے زیر اہتمام داشتگاہ اور تربیتگاہ میں انجام پار رہا ہے اطائل اللہ بقائیہ و عین نفعہ جزاہ اللہ خیرا۔

دائرہ شاہ علم اللہ حسنی رائے بریلی ، ارذی اجنبی ۱۴۲۵ھ

مَاهنَامَةُ الْبَلَاغِ كاتبِ بَحْثٍ

جوری ۱۹۹۵ء	شمارہ ۷	جلد ۲۹
شمارہ ۱۵	مطابق	سال ۱۳۱۵

زیردارت! حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ، دارالعلوم کراچی پاکستان

حکم الامر حضرت تحانوی رحمۃ الرّحیم علیہ نے اپنے بعد دین کے مختلف شعبوں سے متعلق اس قدر مفصل اور جامع تصانیف، مواعظ اور ملفوظات مخصوصے ہیں کہ جس کی شاخ پھیلے دو میں کم ہی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی شخص ذرا سی توجہ کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے تو دین اسلام کی ساری تفصیلات اس کے سامنے آجائی ہیں، دین کا کوئی گوشہ نظر وہ سے او جعل نہیں رہتا اور اس کے بعد عصر حاضر کی کوئی مگر ای بفضل خداوندی ایسے شخص پر اثر انداز نہیں ہو پاتی بلکہ وہ بے شمار افزاد کو بھی مگر ای سے بآسانی نکال لیتا ہے۔ حضرت تحانوی کے وصال کے بعد سے حضرت تحانوی رحمۃ الرّحیم علیہ کی تصانیف، مواعظ اور ملفوظات پر سلسلہ کام ہو رہے ہے اور اس سلسلہ میں ایک بڑا کتبخانہ بحمد اللہ وجود میں آچکا ہے اور یہ سلسلہ اب دن بدن روزافزوں ہے۔

حضرات اس سلسلہ میں کام کر رہے ہیں ان میں علام، فقہا، صوفیا، مفتکرین، پروفیسر مورخین حتیٰ کہ ماہرین نفیات تک شامل ہیں مگر ان میں آج تک "محترم جانب" مولانا مفتی محمد زید صاحب استاذ جامعہ عربیہ ہرتو رباندہ، یوپی انڈیا" کا نام سرفہرست ہے انہوں نے بڑی عرق ریزی اور وسیع مطالعہ کے بعد اہم علمی اور دینی موضوعات پر حضرت کے علم کو حسن ترتیب کے ساتھ مرتب کرنے کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ حمد للہ تعالیٰ خیراً۔

ابو حماد

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مرتب

صحیح سے شام تک پانچ وقت کی نمازوں میں کم و بیش آپ چالیس پچاس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے جس میں رب العالمین سے صراط مستقیم پر قائم رہنے اور مغضوب علیہم ولاضالین کے طرق سے بچنے کی دعا، مانگی جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین کا مصدقہ کون لوگ ہیں اور ان کی مگرائی کس نوع کی تھی؟

مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاری ہیں۔ یہود کی مگرائی تو یہ تھی کہ وہ علم و فہم کے باوجود دانستہ طور پر مگرائی کو اختیار کیے ہوئے تھے اور آیات بینات میں طرح طرح کی تحریفات و تاویلات کیا کرتے تھے۔ اور نصاری کی مگرائی یہ تھی کہ وہ ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے بے دینی کی باتوں کو دین سمجھ کر اور اپنے بنی کی عظمت و محبت میں غلوکا شکار ہو کر ایسی ایسی خرافات میں مبتلا ہو گئے جس کا دین و شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔

علماء نے لکھا ہے کہ مگرائی کی اصل اور بنیاد یہی دو امر ہیں یا تو جانتے ہوئے فصد اگرائی کو اختیار کرنا، یا عدم علم اور جہالت کی وجہ سے مگرائی میں مبتلا ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی طرف سے دونوں قسم کی مگرائیوں کا خطرہ تھا چنانچہ آپ نے اس سے امت کو آگاہ فرمایا، ایک طرف تو علماء سود کی مذمت فرمائی جو جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی لوگوں کو مگرائی سے

منع نہیں کرتے بلکہ خوف یا لایح کی وجہ سے خود اس میں شرکیں ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف امت کو آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ بزردار نصاریٰ کی طرح تم لوگ مجھ کو اتنا نہ بڑھا دینا جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک پہونچا دیا، اور اپنے پیغمبر کے نام پر ان کی یادگار منانے میں طرح کی خرافات میں مبتلا ہو گئے۔

جن مگر اہیوں اور فتنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچانا چاہا تھا بد قسمتی سے امت اسی میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ نصاریٰ کی طرح یہ امت بھی اپنے پیغمبر کے نام پر اور آپ کی یادگار منانے میں خصوصاً ۱۲ ربیع الاول کے موقع پر وہ خرافات کرنے لگی کہ العیاذ بالله۔ جن جن باتوں سے — حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا تھا اور جن بداخل لاقيوں و رگراہیوں کو مٹانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے افسوس کہ دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ سب کام کئے جانے لگے۔

کتنی موئی اور آسان سی بات ہے کوئی عمل کتنے ہی خلوص و محبت سے دین کی نسبت پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا جائے وہ ہرگز ہرگز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شریعت سنت سے ثابت نہ ہو، بلکہ وہ عمل مردود ہو گا اور ساری کوشش رائیگاں جائے گی۔ بد قسمتی سے ہر زمانہ میں یہود و نصاریٰ کی دونوں قسم کی مگراہ جماعتیں رہی، میں، علمائے سواد نے تو محض رغبت و رہبست، لایح اور خوف کی وجہ سے مگر اہی کو اختیار کیا اور علم سے ناواقف ہی ہے سادے مسلمان نصاریٰ کی مگر ای میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن ہر زمانہ میں دونوں مگراہ فرقوں کی اصلاح کے لئے اللہ نے مصلحین امت پیدا فرمائے۔ چنانچہ ۱۲ ربیع الاول کے موقع پر حضور

صلے اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہونے والی مگر اہیوں اور طرح طرح کی خرافات کی مصالحین امت نے اصلاح فرمائی۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن الحاج مالکی۔ وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحریریات اس پر شاہد ہیں۔ اخیر زمانہ میں محقق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲، ربیع الاول کے موقع پر بعد میلاد النبی کے نام سے ہونے والی مگر اہیوں کی اصلاح اپنی تصنیفات اور مواعظ و مفہومات میں محققانہ انداز سے فرمائی ہے، علمائے سود کے فاسد استدلالات اور تاویلات و تحریریات کا جواب دیا ہے اور عوام النّاس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عام فہم زبان میں سمجھایا ہے لیکن حضرت تھانوی رحم کا یہ کلام مختلف کتابوں اور مواعظ میں منتشر تھا، چونکہ اس وقت امت میں یہ مگر اہی عروج پر ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، عوام کی طرح خواص بھی اس میں متبللا ہو رہے ہیں۔

اس یہے ضرورت کے تحت احقر نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے جملہ منتشر مضا میں کو یکجا مرتب کر دیا جو رسالہ کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہے، شریعت و سنت کے پابند اور انصاف پسند کے یعنی یہ رسالہ انشا اللہ کافی و وافی ہو گا، اور نہ مانتے والے کے لئے یکڑوں رسالے بے سود ہیں۔ بحث و مباحثہ و مجادلہ سے کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمانے۔ آئین

محمد زید مظاہری ندوی

جامعہ عربیہ سہھورا باندہ

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۱۹ھ

باب ۱ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

(۱) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہوگی (یعنی ایک غلطی ہوگئی) تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجئے ۔ بو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا ۔ حالانکہ ابھی ہم نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا ہے عرض کیا کہ اے رب میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور روح میرے اندر پھونکی، تو میں نے سر جواہٹیا تو عرش کے پالیوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملا یا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم پسجے ہو، واقع میں وہ میرے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے دعا کی درخواست کی ہے تو میں نے تھاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔

(روایت کیا اس کوہنی نے اور روایت کیا اس کو حاکم نے اور اس کی تصحیح کی ہے اور بڑانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے)

نشر الطیب فی ذکر البنی الجیب م ۱۱

(۲) حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور ارشد تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

فائٹ۔ اس سے آپ کی فضیلت کا انہمار آدم علیہ السلام کے سامنے
ظاہر ہوتا ہے۔ (نشر الطیب ص ۱۱)

اول مخلوق اللہ توری

عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھ کو بتلا یئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا لے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے بنی کانور اپنے نور سے (یعنی اپنے نور کے فیض سے) پیدا کیا پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھی اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ ان تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور محظوظ کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصہ کیے اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرا سے عرش آگے طویل حدیث ہے۔

فائدہ:- اس حدیث سے نورِ محمدی کا اول الخلق (یعنی سب سے پہلے پیدا ہونا) ثابت ہوا۔ (مصنف عبد الرزاق)

حضرت عیاض بن ساریہ سے روایت ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین (اس وقت ہو چکا تھا) جب کہ آدم علیہ السلام بھی اپنے خمیری میں پڑے تھے یعنی ان کا پتلابھی تیار نہ ہوا تھا [روایت کیا اسکو احمد او زہبی اور حاکم نے اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے] اور مشکوہ میں شرح النہ سے بھی یہی حدیث مذکور ہے۔ نشر الطیب ص ۱۱، حسن العزیز ج ۲ ج ۳ ص ۲۲۸

حضرت کے اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تما انبیاء پر کیوں ہے

وہ سب مقطاں کی امام کے ایک جزو ہیں سہل بن صالح بہمان سے روایت ہے وہ کتنے ہیں کہیں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر صنی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم ہے حتیٰ سب انبیاء پر فضیلت کیسے ہو گئی۔ فارغ تحریر آپ سب سے آخر ہیں مبعوث ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آدم سے یعنی نبی شیعوں یہی سے ان کی اولاد کو عامَ میثاق میں نکالا۔ دران سب سے یہ اقرار کر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہے تو سب سے پہلے جواب میں بلی ہیں نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی وجہ سے آپ کو سب انبیاء پر تقدم (یعنی فضیلت حاصل) ہے گو آپ سب سے آخر ہیں مبعوث ہوئے۔

(نشر الطیب فی ذکر انبیاء الحجیب مک)

فائدہ، حنور سے اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر فضیلت کے اس کے عزادہ بھی مختلف اباب (ہیں)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت

۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص پورا ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ اپنے والد سے بھی زیادہ اور اپنی اولائے بھی زیادہ اور سب آدمیوں سے بھی زیادہ۔

(روایت گیا اس کو سخاری و مسلم نے)

۲۔ عبد اللہ بن ہشام کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فُرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ایمان دار نہ ہو گے
جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ رکھو گے۔ (بخاری)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے محبت رکھو، اس وجہ
۰۳

سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ روایت کیا اس کو تمذی نے
اے مسلمانو! یہ سب دولتیں اور نعمتیں جس ذلت کی برکت سے نصیب ہوئیں
اگر ان سے محبت نہ کرو گے تو کس سے کرو گے۔ ایسی مفت کی دولت جس میں نہ محنت
نہ مشقت کیاں نصیب ہوتی ہے اسکو ما تھے سے مت دینا۔ اپنی رُگ رُگ میں اللہ و
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سماںنا اور رہچالنا۔

خدا اور رسول سے محبت رکھنے والے پر لعنت کی اجازت نہیں دی گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو شراب نوشی میں سزا دی تھی
ایک دفعہ بھر اس کو لایا گیا اور سزا دی گئی۔ ایک شخص نے کہا۔ اے اللہ اس پر
لعنت کر کس کثرت سے اس کو لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس پر لعنت نہ کرو، یہ خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ (روایت کیا اس کو ابو داؤد نے)

(حیۃ المُسْلِمِینَ ص ۸ روح چارم)

بائب

زمن الاول کی فضیلت

اس ماہ مبارک کی یہ فضیلت کافی ہے کہ یہ زمانہ حضور پر نور سیدنی آدم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا زمانہ ہے۔ لہ ہم اس ماہ کی فضیلت کے منکر نہیں، فضیلت اس میں ضرور ہے۔ اگر اس میں فضیلت نہ ہوئی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیدا کیے جاتے یہ

جس زمانہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہو وہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس میں شرف نہ آئے جیسے کہ ولادت شریفہ کا مکان اسی وجہ سے معظم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت (یعنی پیدائش کی جگہ) ہے چنانچہ آج تک وہ موضع شریف محفوظ ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ زمانہ بھی شریف ہو گا جس زمانہ میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لہ

جیسے جمعہ د کا دن تمام دلوں کا سردار اور سب سے افضل دن ہے کیونکہ اس دن) میں حضرت آدم علیہ السلام کے تین واقعے ہیں، ایسا ہی یہاں بھی ربيع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین واقعے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے بالامتناق اسی ماہ میں ہے جو آدم علیہ السلام کی ولادت کے مشابہ ہے۔ اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (اور نبوت ملنے کا واقعہ، بعض روایات کے مطابق (اسی ماہ میں ہوا) جو آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے کے مشابہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ وفات شریف کا ہے جو اسی ماہ میں ہوا، جو آدم علیہ السلام کے واقعہ ہبوط رزمیں میں اترنے (کے مشابہ تھا)۔

ربيع الاول کو فضیلت پہلے سنتی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس میں فضیلت آگئی

اس ہمینہ کو فضیلت حاصل ہے خواہ وہ فضیلت اس طرح ہو کہ اس ماہ کو پہلے سے فضیلت عطا ہو گئی تھی اور اس ماہ کے فضیلت والا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے لیے اس کو خاص فرمایا اور اسی طرح دو شنبہ کے دن میں فضیلت پہلے سے ہو، اور ان دلوں کے فضیلت والا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پیدا کیا گیا ہو، جیسے جمعہ میں فضیلت پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں پیدا کیا گیا۔

ادرخواہ وہ فضیلت (اس ماہ کی) اس طرح ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اس میں ہوئی ہے، اس تبلیس (و تسلق اور نسبت کی وجہ) سے اس کو فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔

اور ایسا ہی احتمال جمعہ میں بھی ہے کہ خود ولادت آدم علیہ السلام اور دیگر واقعات سے اس میں فضیلت آگئی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے سے فضیلت ثابت ہو، اور ان واقعات کو علامت کے طور پر ذکر فرمایا ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ فِیْهِ وُلْدَتْ وَفِیْهِ أُمْرِیْلَ عَلَکَیْ د کہ اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا (اس میں بھی دونوں احتمال ہیں کہ چونکہ میری ولادت اور عبث سے اس میں فضیلت آگئی ہے اس لیئے روزہ رکھتا ہوں یا یہ کہ یہ دن پہلے سے فضیلت کا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ فِیْهِ وُلْدَتْ وَفِیْهِ أُمْرِیْلَ عَلَکَیْ اس فضیلت سابقہ کی وجہ سے روزہ رکھتا ہوں، تو دونوں احتمال دونوں جگہ ہیں، اور فضیلت کے ثبوت میں دونوں مغایر ہیں خواہ وہ فضیلت سبب ہو یا سبب یعنی یہ اس کی فضیلت کا سبب ہو یا وہ اس کی فضیلت کی علامت ہو، دونوں میں کچھ مضائقہ نہیں۔ لہ

ماہ زیع الاول زیادہ افضل ہے یا رمضان المبارک

اس ماہ زیع الاول کی ایسی فضیلت منقبت ہے جو بعض حیثیتوں سے تمام

مہینوں کی فضیلت پر بڑھی ہوئی ہے اور "بعن حیثیتوں" سے اس لیے میں نے کہا کہ رمضان المبارک کی فضیلت تحقق قابلے نے بھی بیان فرمائی ہے، اور ماہ ربيع الاول کی فضیلت حق تعالیٰ نہیں بلکہ صرف بنائی ہے، پس رمضان المبارک کی فضیلت تو بنائی بھی ہے اور تبلائی بھی ہے اور ربيع الاول کی صرف بنائی ہے، بتائی نہیں، توجہ کی فضیلت بتائی بھی اور بنائی بھی وہ افضل ہے، اس ماہ سے جس کی فضیلت صرف بنائی ہو اور بتائی نہ ہو، اسی لیے میں نے کہا کہ بعض حیثیت سے یہ ہدایۃ تمام مہینوں سے افضل ہے اور وہ حیثیت یہی ہے کہ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پس خاص اس حیثیت سے اس کو رمضان پر بھی فضیلت ہے۔

اور اگر نظر کو زیادہ دیکھ کیا جائے تو رمضان المبارک کو اس حیثیت سے بھی ربيع الاول پر معنی فضیلت ہو سکتی ہے اس لیے کہ ربيع الاول میں یہ شرف کہاں سے آیا؟ آپ کی ولادت شریفہ کاظف ہونے سے، اور رمضان المبارک میں شرف کیوں؟ آپ کی عبادت شریفہ کاظف ہونے سے پس ربيع الاول شریفہ تو ولادت شریفہ کاظف ہے اور رمضان المبارک عبادت مبارک کاظف ہوا، اور ظاہر ہے کہ حضور کی عبادت آپ کی ولادت سے افضل ہے اس لیے کہ ولادت (پیدائش) سے مقصود اور اس کی نایت عبادت ہی ہے، پس عبادت شریفہ کاظف ولادت شریفہ کے ظرف سے افضل ہوا۔ لیکن تاہم ربيع الاول کو اس خاص حیثیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت باعہادت ہوئی ہے صورۃ رمضان المبارک پر فضیلت ہے۔

(الظہور ص ۶۶)

ربيع الاول میں خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت ثابت نہیں

دریں الاول کی فضیلت بے شک ثابت ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی عبادت کی تخصیص درست نہیں کیوں کہ فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس فضیلت والے زمانہ کو شرعی دلیل کے بغیر جس عبادت کے لیے چاہیے خاص کریا جائے۔ ربيع الاول میں فضیلت تو ثابت ہے مگر ذکر بنوی کے لیے اس کی تخصیص ثابت نہیں۔

جیسے جمعہ کے دن روزہ کی تخصیص کی مانافت حدیث میں آئی ہے باوجود کہ اس کے فضائل بھی دار ہیں چنانچہ حدیث شریف میں اس دن کی فضیلت میں آیا ہے، فِيَهُ وَلِدَ أَدْمَ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ هُبَطَ إِلَى الْأَرْضِ۔ (یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی روز زمین میں اترے گئے۔

تو دیکھئے جمعہ کے بارہ میں باوجود یہ فضائل خود حدیث شرفی سے ثابت ہیں لیکن اس دن میں تخصیص صوم (یعنی خصوصیت) کے ساتھ روزہ رکھنے کی مانافت ہے۔ تو ربيع الاول کے فضائل تو منصوص بھی نہیں (بلکہ مستنبط ہیں) تو اس میں تخصیص ذکر کی اجازت کیسے ہوگی؟ مگر اس مانافت کے باوجود ہم اس ماہ کی فضیلت کے منکر نہیں۔

ماہ زیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ مجاہس منعقد کرنا

یہ تاریخ اگرچہ بابرکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس میں مزید برکت کا باعث ہے لیکن چونکہ اس کی تخصیص اور اس میں اس ذکر کا الترام (ثابت نہیں اس لیے) بدعت ہے۔ اس لیے اس تاریخ کی تخصیص کو ترک کر دیں گے لہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تخصیص لازم کے بغیر اس ماہ (ربيع الاول) میں ذکر میلاد جائز ہے۔
(النور ص ۲۳)

ربيع الاول میں تقریر کا اہتمام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے متعلق لوگوں میں آجکل بہت سے منکرات اور بدعاات شائع ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے عقائد و اعمال خراب ہو گئے ہیں اور ان منکرات (وبدعاات) کا ارتکاب اسی مہینہ میں اکثر کیا جاتا ہے اس لیے بھی یہ مضمون اس وقت اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ بتلا دیا جائے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پس اس وقت کے ذکر کی بناء (اور مقصد) ربيع الاول کی تخصیص نہیں بلکہ منکرات پر نیکر کرنا اصل بناء (اور مقصد) ہے۔

اس لیے چند سال سے میرا معمول ہے کہ ماہ ربيع الاول کے شروع میں ایک وعظ افراط و تفریط کرنے والوں کی (عنی کوتاہی اور غلو کرنے والوں کی) اصلاح کے متعلق کہا کرتا ہوں اور اس میں ضمناً علمی فوائد اور حقائق کا بیان بھی آجائتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اصل میں اجتماع (یعنی جلسہ اور تقریر) احکام سننے کے لیے ہو۔
اور اس میں یہ مبارک واقفہ اور فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہو جائے
یہ صورت بلانگیر جائز ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانوی رح کے زین العابدین میں عظماً فرمانے کی وجہ

بعض لوگ تو آج کل ذکر میلاد النبی میں تخفیضات یعنی وقت کی تخفیض کے پابند ہیں۔ سوانح حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خاص خاص زمانوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذکر کو محرم کے ساتھ خاص کر دیا ہے ایسے ہی ان محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو زین العابدین کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔

اور تعجب نہیں کہ میکراس وقت کے بیان کرنے سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ بیان بھی شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ اسی بیان کا ہے — اور شاید پڑھ سے لکھے لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ ہم میں اور اہل بدعت میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی بیان کے لیے اس مہینہ کی تخفیض کرتے ہیں اور تم نے بھی کی۔ (چھردوں میں کیا فرق ہوا؟)
تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تخفیض نہیں۔ تخفیض کسی ہو، یہاں تو کوئی بیان اور کوئی وعظ اس سے خالی نہیں جاتا کہ آپ کی

تشریف آوری کی حکمتیں اور اسرار و مقاصد اس میں بیان نہ ہوں۔ لیکن اب بھی شاید کسی کوشش ہو کہ (ریبع الاول کے علاوہ) اور زمانوں میں تو خاص اس اہتمام کے ساتھ اس کا بیان نہیں ہوا۔ اور اس طرح خاص اس مہینہ میں کیوں کیا گیا؟

تو اس لیئے عرض ہے کہ ہم نے اس مہینہ کو اس ذکر مبارک کے لیئے اس وجہ سے خاص نہیں کیا کہ اس ماہ میں ولادت شریف ہوئی ہے۔ بلکہ اس وجہ سے پتّ تھیص کی ہے۔ اہل بدعت اس ماہ میں ذکر ولادت شریف کی مجلس کرتے ہیں اور ان میں بدعات و حرمافات سے نہیں بچتے۔

جیسے حکیم صاحب اسی وقت روادیں گے جب درد ہو اور جب درد جاتا رہا گو درد دیواریں اس وقت بھی اس حیثیت سے مفید اور کار آمد ہے کہ جب کبھی درد ہو گا، استعمال کریں گے لیکن درد کے وقت کو تو اس وقت پر تریخ ہو گی۔ پس درد اور مرض جب دیکھا جاتا ہے جب ہی وہ وادی جاتی ہے۔ اور وہ مرض اسی ماہ میں (یعنی ریبع الاول) میں شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا معالجہ اور اصلاح کی جائے۔ بخلاف اس کے کہ چار ماہ پہلے یا بعد میں یہ مضمون بیان کیا جانا تو گو مفید ہوتا۔ لیکن اس مدت کے اندر لوگ اس کو بھول بھال جاتے۔

اور اتنی ہم نے ان (اہل بدعت) کی مخالفت بھی کری کر وہ لوگ توبارہ ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں، ہم کو اتنا اصرہ کہا تھا، ہم نے تو اس ماہ کے شروع ہوتے ہی پہلے ہی جمعہ کو بیان شروع کر دیا۔ اس مخالفت کرنے سے اب ہم پر کچھ کوشش نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہاں بھی اہل بدعت کی مخالفت کر لی۔

(جمع الجور)

باب

اسلامت پر سب سے بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثت ہے

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ لَا يَأْتِيهِمْ وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مُرْسَلٌ إِلَيْهِمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ فَتَبَلُّ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (آل عمران)

یعنی حق تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول ان کی جنس سے بھیجا کر وہ ان کو آئیں اور احکام پڑھ پڑھ کرنا تے ہیں اور ان کو ظاہری و باطنی بخشاست و گندگیوں سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھلاتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ایک کھلی گمراہی میں نہیں۔

اس آیت میں آیت يَشْبُلُوا عَلَيْهِمُ الْآيَةُ اُنْہ بے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ خوشی کی اصل چیز اور احسان یہ ہے کہ حضور ہمارے لیے سرمایہ بدایت ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوش ہونے کی بہت سی چیزوں ہیں مثلاً حضور کی ولادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثت (بُوٰت) اور حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے دیگر تمام حالات مثلاً معراج و عزہ یہ سب حالات واقعی خوش ہونے کے ہیں لیکن اس حیثیت سے کہا سے لیے یہ ہدایت اور ابدی سعادت (ہمیشہ کی کامیابی کے ذریعہ اور) مقدمات ہیں اس لیے کہ (آیت میں) بعثت کے ساتھ یہ صفات بھی بڑھائی ہیں *يَتَّلُّوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ* پس مبلغت کے قاعدہ سے ثابت ہوتا ہے (اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے) کہ اصل احسان کی چیز یہ صفات ہیں باقی بذات خود ولادت شریفیہ یا معراج وہ بھی زیادہ باعث خوشی اس لیے ہیں کہ اس بڑی دولت کا مقدمہ (یعنی ذریعہ اور واسطہ) ہیں۔ اس لیے کہ اگر ولادت شریفیہ نہ ہوتی تو ہم کو یہ نعمت کیسے ملتی۔

اس فرق کی وجہ سے خوشی میں بھی فرق ہو گا کہ جس قدر خوشی ولادت شریفیہ پر ہونا چاہئے۔ اس سے زائد بُوٰت شریفیہ پر ہونا چاہئے۔ اگر ولادت شریفیہ کے ذکر کے لیے مجلس منفرد کی جائے تو بُوٰت مبارکہ کے ذکر کے لیے بدرجہ اوپر کی جائے۔

اسی طرح اہل مجلس کو چاہئے کہ (اگر مجلس کریں تو) معراج شریف اور فتح کے معظمه اور حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے غر وات مبارکہ اور بھرت کی بھی مجلسیں منعقد کیا کریں۔ اس لیے کہ جیسے ولادت شریفیہ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا ایک حال ہے۔ اسی طرح یہ بھی تو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی کے حالات ہیں، بلکہ ان میں بعض حالات ولادت شریفیہ سے بڑھ کر ہیں۔

الغرض حق تعالیٰ کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ خوشی کے قابل یہی شئی (یعنی بُوٰت اور احکام شریعت) ہیں۔ اب بتلائیے اس پر کون انہار خوشی کرتا ہے؟ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر ولادت میں خوش الحان

رد کے گاتے ہیں۔ سنبھل میں نفس کو مزہ آتا ہے اور احکام میں کوئی خاص مزہ نہیں اس لیے کاس میں تو ہی ہو گا کیرے کرو، یہ نہ کرو۔ اس میں کیا مزہ، اس میں تلوہ ہے کے پہنچانے پڑتے ہیں اور زہر کے گھونٹ پہنچانے پڑتے ہیں اس لیے اس سے نفس بھاگا گا ہے اور میلاد شریف کے واقعات کے ذکر میں صرف سن لینا ہوتا ہے (کچھ کرنا نہیں پڑتا) اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل چیز تو احکام ہی ہیں (جن کو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ اہتمام سے بین فرمایا۔ اس کی تبلیغ فرمائی۔ اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہئے۔ اس کا ظریقہ یہ ہے کہ ایک مدت تک ان پر اتزام کیجئے (یعنی پابندی کیجئے) نفس کو عادی بنائی۔ پھر اس میں روحانی لطف دیکھنے لے

حضرت اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تو ہم بالکل محروم رہتے

ایمان اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ جنت میں خوش ہوں گے [سورہ روم] اور ظاہر ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ انبیاء علیہ السلام کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کو یہیجا تاکہ لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کا راستہ بتائیں اور اس وقت اول تو کسی اور بھی کی شریعت موجود نہیں اور پہلے انبیاء میں سے اگر کسی کی کوئی شریعت ہے بھی تو تحریف شدہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے پھر اگر تحریف شدہ بھی نہ ہوتی تو منسوب خذات ابی علی (تحتی اس لیے اس وقت ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت صرف ہمارے

حضرت مسیح علیہ وسلم کے اتباع ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہم اس دولت سے بالکل محروم رہتے۔ ہمارے اوپر حق تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی برکت سے ہم کو اس دولت سے سرفراز فرمایا۔ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے احسان جتنا کرو جا بجا قرآن شریعت میں ذکر فرمایا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں،

”وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ لَا مَعْتَنِرٌ
الشَّيْطَنُ إِلَّا فَلَيْلًا“

دوسری جگہ ارشاد ہے،

”وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ لَا كُسْمُرٌ مِنَ الْخَسِيرِ يَنْهَا
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان موقع میں فضل اللہ اور رحمت کی تفسیر بعثت محمدیہ (یعنی آپ کی نبوت) سے کی ہے تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اگر محمد مسیح علیہ وسلم کو میتوڑ فرمائے خدا تعالیٰ تم پر فضل اور رحمت نہ فرماتے تو تم ناکام اور محروم رہتے۔

اور اگر اللہ تعالیٰ بعثت محمدیہ سے تم پر رحم و کرم نہ فرماتے تو تم شیطان کا اتباع کرنے لگتے سوائے تھوڑے سے ادمیوں کے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل فضل اور رحمت جو مسیح اور خوشی کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو حضور مسیح علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ایمان و اعمال صالحہ کی توفیق ہوئی اور اتنی بڑی نعمت حاصل ہوئی جس سے ہماری دنیا و آخرت سنور گئی۔ اور انشاء اللہ اس کی برکت سے ہم جنت میں خوشیاں مناٹیں گے۔

لیکن اب لوگ حضور مسیح علیہ وسلم کے ٹھپور (یعنی پیدائش وغیرہ کے

متصل) برکات کو بیان کرتے ہیں۔ معنوی برکات یعنی ایمان، معرفت الٰہی (جس کی بدولت نعمات ہوگی۔ جنت حاصل ہوگی۔ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہوئی ہیں، ان برکات کو لوگ آج کل بیان ہی نہیں کرتے، بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ ضرورت اسی کے بیان کرنے کی ہے کیونکہ آپ کے ظہور کا اثر اور اس کی برکت کے آثار تو محسوس ہیں کہ تمام عالم کا وجود آپ کے نور کے طفیل سے ہوا۔ اور اس کے آثار یعنی ایمان و اعمال کے آثار قیامت اور جنت میں معلوم ہوں گے اور یہاں ان کی طرف سے غفلت ہے اس لیے زیادہ ضرورت اسی کے بیان کرنے کی ہے۔ نیز آپ کے ظہور کا اثر تو یہ ہوا کہ ہم موجود ہو گئے مگر صرف موجود ہونے سے کچھ زیادہ فضیلت نہیں ہو سکتی۔ پوری فضیلت ایمان و معرفت الٰہی (اور اعمال صالحہ ہی) سے حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ (اس لیے بھی اس کے بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے)۔

حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بہت بڑی نعمت ہے
اس نعمت کا شکر میہ اور اس پر فرحت ضروری ہے

اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں کر حق تعالیٰ کی ہر نعمت قابل شکر ہے خصوصاً جو بڑی نعمت ہو، پھر خصوصاً جو دینی نعمت ہو، اور دینی نعمتوں میں سے بھی جو بڑی نعمت ہو۔ پھر ان میں بھی خاص وہ نعمت جو تمام دینی اور دنیا وی نعمتوں

کی اصل ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیونکہ دنیوی نعمتوں کے سرچشمہ بھی آپ ہی ہیں اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم (ساری دنیا) کے لیے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو منکر جہانوں کی رحمت کے واسطے۔

دیکھئے عالمین میں کوئی تحفیص نہیں۔

اس میں انسان غیر انسان مسلمان یا غیر مسلمان کی کوئی تحفیص نہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر شئی کے لیے باعث رحمت ہے۔ خواہ وہ حضور کے زمانہ سے مقدم ہوں یا مُؤْخِرُ کیوں کہ اللہ تعالیٰ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وجود درب سے پہلے پیدا فرما یا اور وہ لوز کا وجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود نوری کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور آخر زمانہ میں اس امت کی خوش قسمتی سے اس نور نے جلد عنقری میں جلوہ گروتا باں ہو کر تمام عالم کو نور فرمایا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاً و آخرًا تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام نعمتوں کی اصل ہونا عقلاً و نفتلاً ثابت ہوا۔ — جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام نعمتوں کی اصل ہے اور نعمتوں پر شکر اور فرحت (یعنی خوشی) کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَشُلْ يَعْصِمِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذِلِّكَ فَلِيَفَرُحُوا۝

(پی یونس)

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فنا ریجئے کہ بس صرف اللہ کے

فضل و رحمت کے ساتھ خوش ہوں اس لیے کہ وہ بہتر ہے اس
شئی سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں یعنی متابع دنیا سے (یعنی
دنیاوی ساز و سامان سے)۔

اس آیت میں دامر کا صیغہ موجود ہے اس میں خوشی کا حکم ہے
تو اس فرحت کو کون منع کر سکتا ہے ایسا کون مسلم ہو گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے وجود پر خوش نہ ہو یا شکر نہ کرے یہ

آیت کی تفسیر

اس مقام پر سیاق و سباق پر نظر کرنے کے اعتبار سے اگرچہ آیت کے اندر
(فضل اور رحمت سے) قرآن مجید مراد ہے لیکن اگر ایسے عام معنی مراد لیے جائیں کہ قرآن
مجید بھی اس کا ایک فریب ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے وہ تھے کہ فضل اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کا قدوم مبارک (یعنی آپ کی تشریفیت اوری) مراد لی جائے ۔

اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں ہیں خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی اور اس میں
قرآن بھی ہے۔ سب اس میں داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا وجود تمام نعمتوں کی اصل اور تمام رحمتوں اور فضل کا مادہ ہے پس یہ تفسیر تمام تفاسیر کو
جامع ہو گی۔ اس تفسیر کی بنیا پر آیت کا حاصل یہ ہو گا کہ ہم کو حق تعالیٰ ارشاد فرمائے
ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر خواہ وہ وجود لوزی ہو یا ولادت ظاہری
اس پر خوش ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تمام نعمتوں
کے واسطہ ہیں۔ ہم کو جو دو دقت روضیاں ملتی ہیں اور ٹھانیت و تذرسی ، اور

ہمارے علوم یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہیں۔ فضل و رحمت کی اصول
الاصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پس ایسی بابرکت ذات کے وجود پر
جس قدر بھی فرج اور خوشی ہو جم ہے۔ بہر حال اس آیت سے عموماً یا خصوصاً ثابت
ہوا کہ اس نعمت عظیمہ پر خوش ہونا چاہئے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص خوشی کی ہے تو
یہی نعمت ہے۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا۔ **هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمِعُونَ**
یعنی یہ نعمت (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) ان تمام چیزوں سے بہتر
ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں یعنی دنیا بھر کی نعمتوں سے یہ نعمت افضل و بہتر ہے
پس جس نعمت پر حق تعالیٰ اس شدود مردا تکید کے ساتھ خوش ہونے کا حکم فرمائیں
وہ کس طرح خوش ہونے کے قابل نہ ہوگی یہ اس آیت کا حاصل ہے جو اس پر بنی
ہے کہ فضل اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہے جائیں لہ

اس عظیم نعمت پر خوشی کے طریقے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر خوشی کا حکم ہے (جیسا کہ ماقبل
کے بیان اور آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا۔) اب یہ سمجھنا چاہئے کہ اس خوشی کا طریقہ
کون سا ہے؟ سواس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ جس پر خود جانب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، اس لیے کہ جیسے امت پر اس آیت کا
امثال (یعنی اس کے مطابق عمل کرنا) واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی
واجب ہے جیسے بنی کوئی جانتا (بنوت پر ایمان لانا) جس طرح امت کے ذمہ
ضروری ہے اسی طرح بلا فرق اس بنی کو بھی اپنی بنوت کا اعتقاد فرض ہے اس

یہ یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو کس طریقے سے ظاہر فرمایا ہے۔

اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلپا یا حبس زیما (یعنی کسی قاعدہ سے اصولی طور پر یا صراحتاً ثابت اور متفق نہ ہو، بلکہ کسی نے ایجاد کیا ہو جس طرح سے آج کل بہت سے محبت کا دام بھرنے والے لوگ بھلسیں منعقد کرتے ہیں) اور ان میں اکثر لوگوں کی بینت بُری نہیں ہوتی وہ محبت ہی سے کرتے ہیں مگر غلطی میں ہیں اس لیے کہ محبت میں بھی غلطی ہو جاتی ہے یہ تو ضروری نہیں کہ جس فعل کا منشاء محبت ہو، (یعنی محبت کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے) اس میں غلطی نہ ہو۔ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں ٹھیک دوپہر کے وقت (جس وقت نماز پڑھنا منع ہے اس وقت نماز) پڑھنے لگے۔

بہر حال ہر عمل کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک متفق (جو شریعت سے ثابت ہو) دوسرا تراشہ ہوا۔ گفتگو اس میں ہے کہ اس فرحت (خوشی کا) مروجہ طریقہ کس قسم میں داخل ہے بلہ

اس نعمت پر خوشی کا صحیح طریقہ

ہم کو فرحت (یعنی خوشی) کا حکم ہے اور اس کی تجدید (کہ صرف اتنے زمانہ تک خوشی ہوگی اس کے بعد نہیں) یا تجدید (یعنی خوشی منانے کے نئے نئے خود ساختہ طریقے اس) کا حکم نہیں بلکہ فرج دام اور مسرت دام (یعنی

ہمیشہ اس نعمت پر خوش ہونے کا حکم ہے اس کے لیے کسی خاص دن کو محفوظ نہ کریں اور ہر وقت اس آیت پر عمل کریں یہ

ہم پر یہ بہتان ہے کہ ہم ذکر ولادت رسول ﷺ سے منع کرتے ہیں

حضرت رسول ﷺ کا وجود ہر شی کے لیے رحمت ہے خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، حضور ﷺ اولًاً و آخرًاً تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہیں۔ ایسا کون مسلمان ہو گا جو حضور ﷺ کے وجود پر خوش نہ ہو، یا مشکر نہ کرے، ہم پر یہ خالص تہمت اور محض افراہ اور بہتان ہے کہ تو یہ توبہ، نعوذ باللہ یہ لوگ حضور ﷺ کے ذکر شریعت یا اس پر خوش ہونے سے روکتے ہیں۔ حاشا و کلا حضور ﷺ کا ذکر کرو تو ہمارے ایمان کا جزو ہے۔

ہاں جو خوشی ان قوانین کے خلاف ہو گی جن کی پابندی کا حضور ﷺ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس سے البتہ ہم روکیں گے اگرچہ فی نفسہ وہ شئی پسندیدہ ہو۔ اور شریعت میں اس کی نظریں موجود ہیں۔ دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عین دوپر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ قبلہ سے منہ پھیر کر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے۔

اس پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو کامیل مگر ہے (اس کے علاوہ

کسی اور شہر مثلاً بھی میں حج ممکن نہیں۔ دیکھئے نماز، روزہ، حج فرض ہے لیکن قانون شریعت کے خلاف کیے گئے اس لیے وہ منوع ہو گئے اور ان کے منوع ہونے کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔

پس اگر کوئی ایسے نماز، روزہ، حج کو (جو خلاف شرع کیے جائیں) منع کرے تو اس کو کوئی عقل مند نہ کہے گا۔ اور اس پر یہ تہمت نہ لگائے گا کہ یہ شخص نماز، روزہ، حج سے روکتا ہے اور اگر نماز، روزہ سے روکتا تو خود ہی ان پر کیوں عمل کرتا۔

اسی طرح زیر بحث مسئلہ (ذکر میلاد ابنی) کے اندر سمجھو کر ہمارے حضرات کے مغلق یہ کہنا کریے لوگ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت شریفہ کے ذکر یا اس پر خوش ہونے کو منع کرتے ہیں، یہ محض تہمت بہت ان ہے، حاشا و کلا۔ ہم ہرگز منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب وہ شی اس طریقہ سے کی جائے گی تو وہ پسندیدہ ہے ورنہ ناپسند اور منع کرنے کے قابل ہے۔

دیکھئے تجارت ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے خاص خاص قوانین مقرر کر دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان قوانین کے خلاف تجارت کرے گا تو وہ ضرور قوانین کی خلاف ورزی (کے جرم) میں ماخوذ ہو گا۔ چھترہ، بارود کی تجارت وہی کر سکتا ہے جس نے لائن حاصل کر لیا ہو۔ اسی طرح شریعت میں بھی ہر چیز کا قاعدہ اور قانون ہے، جب اس کے خلاف کیا جائے گا تو وہ ناپسند اور منوع ہو جائے گا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر مبارک عبادت ہے لیکن دیکھنا چاہا ہے کہ قانون داں حضرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم جن کی اقتدا کا ہم کو حکم ہے، انہوں نے اس

عبادت کو کس طرح کیا اگر آپ لوگ اس طریقے سے کوئی توبہ جان اللہ اس سے کون روکتا ہے؟

اور اگر اس طریقے سے زکیا جائے تو بے شک وہ روکنے کے قابل ہے اب فرمائیے۔ کیا ہم لوگ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے والے ہیں؟ نفس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت ہے اس کو تو کوئی ہمیں منع کرتا ہاں جب اس کے ساتھ ممنوع شی کا افرانہ ہو گا (یعنی خلاف شرع طریقے سے ہو گا) تو بے شک ممانعت کے قابل ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہم زیادہ خوشی کا حق ادا کرتے ہیں

اگر غور سے کام لیا جائے تو ہم اس فہرست (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خوشی کے حکم) پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عید میلاد النبی کے موجدین تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ خوش ہوتے ہیں اور درمیان میں ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہر وقت خوش ہیں، پس جو لوگ خوشی کو ختم کر دیں (اور سال میں صرف ایک مرتبہ کر لیں) وہ اس آیت کے تارک ہیں (یہیہ اس پر عامل نہیں)، اور ہم تو کسی وقت نہیں قطع کرتے۔ پس ہم لغفلہ تعالیٰ آیت پر ہر وقت عمل کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جس خوشی کا حکم ہے، اس کے تین درجے ہیں، افزاط، تزییط، اعتدال۔ تقریط (یعنی کوتاہی) تو یہ ہے کہ یہ تجدید کر دیں

ک فلاں وقت پر خوشی ہو گئی جیسا کہ بعض خشک مراجوں کے کلام سے ترجیح ہوتا ہے۔ اور افسرا ط (یعنی غلو) یہ ہے کہ خوشی کو جاری رکھیں مگر حدود شرعی سے تجاوز کریں جیسا کہ اہل بدعت میں طریقہ رائج ہے اور اعتدال (یعنی درمیانی درجہ) مذکوٰت اور پابندی میں ہے۔ (کہ اس نعمت پر ہمیشہ خوش رہے، پس ہم نہ تو کوتاہی کرنے والے ہیں، نہ غلو کرنے والے۔ بلکہ ہمیشہ خوشی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہی شریعت کا حکم ہے) یہ

مولانا فضل الرحمن صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ذکر مولد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم توہر وقت کرتے ہیں، پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا لا إله إلا الله محمد رسول الله (ہر وقت پڑھتے ہیں) اگر محمد رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پیدا نہ ہوتے تو کلمہ کیسے پڑھتے۔ لہ

الصف کی بات

حد سے تجاوز کرنا ہر عبادت میں منوع ہے

ہمارے لیے معیار شریعت ہے، شریعت کے قواعد سے جو خوشی جائز ہے اس کی توجیہ ہے اور جونا جائز ہے وہ منوع ہے۔ فرج و سرور (یعنی خوشی) کے متعلق قرآن مجید میں ایک مقام پر تو آیا ہے لَا أَنْفَرِجُ رَاسِ میں خوشی کی ممانعت ہے، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے فَلَيَقْرَأُوا رَاسِ میں خوشی کا حکم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بعض خوشی کی اجازت ہے

لہ و عَلَى السَّرورِ مَكَّاً ۚ ۝ الْوَقْتُ مَلْهُوقٌ وَ فِرَاقُهُ مَكَّاً ۝

اور بعض کی ممانعت۔ اور ہمارے لیے معیار شریعت ہے۔ شریعت کے قواعد سے جو خوشی جائز ہے اس کی تواجہت ہے اور جو ناجائز ہے وہ منوع ہے۔ چنانچہ جس جگہ لائق فرخ ہے (جس میں خوشی کی ممانعت ہے) اس سے دنیوی خوشی مراد ہے (جو بطور تکبر کے ہو) اور جہاں خوشی کا حکم ہے وہاں دینی نعمت پر خوشی مراد ہے۔ لیکن وہی خوشی (اور اسی حد تک) جس میں شریعت کے قواعد سے تجاوز نہ ہو۔

مثلاً نماز ایک دینی نعمت ہے اس پر اگر کوئی شخص خوش ہو اور خوشی میں آگر یہ کرے کہ بجائے چار رکعت کے پانچ رکعت پڑھنے لگے تو بجائے اس کے کر ثواب ہو، الٹا گناہ ہو گا۔ اس لیے کہ اس نے شریعت کے قواعد سے تجاوز کی۔

خود ذکر رسول جس میں اختلاف ہے اسی کو لے لیجئے۔ اتفاقی مسئلہ ہے کہ چار رکعت والی نماز میں قدرہ اولیٰ میں تشدید (التحیات) کے بعد اللہ ہم صلی علیہ وس علی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے تو نماز ناقص ہو گی حتیٰ کہ سجدہ سہو سے اس اس کی تلافی کرنا پڑے گی۔ اگر سہو ایسی کیا۔ دیکھئے درود شریف (جس میں صلوٰۃ بھی ہے اور سلام بھی) جس کے متعلق حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلٰیْہِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے الٰہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت فرمائیں گے اور پھر موقع کون سا؟ نماز کا۔ لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ نماز میں نقصان آجائے دگا تو اس کی آخزی وجہ کیا ہے۔؟

(وہ اس کی یہی ہے کہ) حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلٰیْہِ وَسَلَّمَ نے نماز میں درود شریف کا جو موقع مقرر فرمایا ہے چونکہ اس سے تجاوز ہواد دینی حد سے آگے بڑھے اس لیے نماز میں نقصان آگی۔ اگرچہ درود شریف نماز میں عبادت ہے اور یہ

میڈا بایہ کے اس پر اہل بدعت کا بھیاتفاق ہے اس لیے کہ وہ بھی حنفی ہیں پس ان کو چاہئے کہ امام صاحب پر اعتراض کریں اور ان پر بھی تہمت لگائیں کہ وہ تو توبہ توبہ ذکر رسول (درود شریف، صلاۃ وسلام) سے منع کرتے ہیں اور وہ بھی دیابی تھے، پس اے حضرت! خدا سے ڈریئے اور اس فاسد مادہ کو دماغ سے نکالیے۔ ورنہ اس کا اندر دور دور تک سرایت کرے گا۔ اور احکام میں حق طلبی اور انصاف کی نظر سے غور فرمائیے۔ اگر کچھ شبہات رہیں تو تہذیب سے ان کو پوچھ کر "رفع فرمائیجئے"۔

الغرض قرآن مجید میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بابت ...
فَلَيَفْرَحُوا كَا حَكْمٍ هُنَّ تَوَسُّلٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَرْجِعُونَ
یہستان ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو منع کرتے ہیں۔ حضور
کا ذکر کی مبارک تودہ شی ہے کہ اگر اس پر اجر کا بھی وعدہ نہ ہوتا، تب بھی محنت
کی وجہ سے ہر وقت آپ کا ذکر کیا کرتے۔ لہ

بَابٌ

ذکر نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام

محبت کا تفاضایہ ہے کہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے

چونکہ شدت محبت کے لیے کثرت سے ذکر کرنا لازم ہے، اس لیے بعض حدیثیں اس کے متعلق ذکر کی جاتی ہیں :

۱۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ بنی اہل اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کی، آپ رسول اللہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں رسول تو ہوں ہی، مگر دوسرے حب و نسب کے فضائل بھی رکھتا ہوں۔

میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھ کو ان کے بہترین یعنی ان میں سے کیا، پھر انسانوں کے دو فرقے (عجم و عرب) بنائے اور مجھ کو بہترین فرد (یعنی عرب) میں کیا، پھر ان کے مختلف قبیلے بنائے اور مجھ کو بہترین قبیلہ یعنی قریش میں بنایا۔ پھر ان قریش کے کئی خاندان بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان یعنی بنو هاشم میں بنایا پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل ہوں۔ (تمعزی، مستکوہ)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ نے اپنے فضائل کا ذکر برمنبر فرمایا۔ لئے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہربات کا ذکر عبادت ہے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہربات قابل ذکر ہے، نشت، برخاست، اخلاق و عادات، مجاہدات و ریاضات، افعال و احکام، اوامر و نواہی رسمی قابل ذکر ہیں، آپ کا ذکر توہر وقت ہی ہونا چاہئے۔ اور آپ کی ہر ادا کا ذکر ہونا چاہئے حتیٰ کہ آپ کے عفنه اور حنگی کا بھی ذکر ہونا چاہئے۔ محبت وہ چیز ہے کہ واللہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفنه اور عتاب کا بھی ذکر ہو تو مزے لے کر ذکر کریں صحابہ کرام نے اس راز کو سمجھا تھا اور محبت کی یہ دولت ان حضرات کو نصیب تھی اسی لیے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش بھی ہوتے تھے تو صحابہ کرام میں اس کا بھی ذکر لذت نے کرفما تے تھے۔

تو اگر دافعی کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو کیا وہ ذکر میلاد میں نماز، روزہ کے ذکر کو ناگوار سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔

صاحبو! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تواٹھنا، بیٹھنا، سونا جاگنا حتیٰ کہ حواب صحیح ضروریہ میں مشغول ہونا سب عبادت ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور احکام کا ذکر کرنا ذکر ولادت سے بھی زیادہ برکت کی چیز ہے اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریعہ تو محفوظ ایک ہی حیثیت سے ایک نعمت عظیمہ ہے جس پر شکر کر کے ہم اپنے درجات بر طھائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و احکام دو حیثیتوں سے نعمت ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی بدولت ہم

کو ملے تو اس عطا پر شکر کریں اور اپنے درجات بڑھائیں۔ رو سکراں حیثیت سے کہ ہم ان پر عمل کریں۔

نیز پوری شریعت سے غرض یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور قب خداوندی ہم کو حاصل ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں اپنی ولادت شریفہ کا ذکر تو بہت ہی کم کیا اور احکام کا ذکر بہت زیادہ کیا۔ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال تک احکام کی تبلیغ فرمائی۔ ان تین سال میں سے اگر وہ تین سال نکال بھی دیئے جائیں۔ جن میں وہی موخر رہی ہے تو تبلیغ کی پوری مدت بیس سال ہوتی ہے۔ اور بیس سال میں تسبیح (تلash) کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت شریفہ کا جتنے وقت میں ذکر فرمایا ہے اس کی مجموعی مدت غالباً ایک ہفتہ بھی نہیں ہو گی۔ تو ایک ہفتہ کم بیس سال تک تو احکام کی تبلیغ فرمائی۔ اور صرف ایک ہفتہ ولادت شریفہ کا ذکر فرمایا۔ تو کیا ابتداء مدت کے یہی معنی ہیں کہ جس چجز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس برس تک ذکر فرمایا ہے اس کو تو بیس منٹ بھی کبھی ذکر نہ کیا جائے اور جس کا ذکر پوری مدتِ تسبیح میں چند مرتبہ ہی فرمایا ہے اس کو عمر بھر ذکر کیا جائے؟

ابتداء مدت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی پوری مدت میں جس قدر اپنی ولادت شریفہ کا ذکر فرمایا ہے اسی قدر تم بھی ذکر ولادت کرو اور جتنا احکام کا ذکر فرمایا ہے اسی قدر تم بھی احکام کا ذکر کرو۔

مجت کا تقاضا

حضرات! مجت تو یہ ہے کہ ان ان اپنے مال و جان سب کو فدا کرنے
نہ یہ کہ غالی مزہ دار حکایات (اور شیریں) بیان کرے اور بس، آپ نے ساری
مجت کا خلاصہ یہ بنکالا ہے کہ سال بھر میں ایک دو دفعہ میلاد کر دیا کر دا اور بس۔
جس طرح اہل محترم (حضرات شیعہ) بال بھر میں ایک دو دفعہ مقررہ تاریخوں پر
کر لیتے ہیں، پھر کروٹ بھی نہیں لیتے۔

ایک حکایت

مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ ایک شاعر حلب پہنچا، وہاں شہر کے شیعہ
مامن کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا، کیا آج کوئی مر گیا ہے؟ لوگوں نے
کہا تو دیوانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو شیعی نہیں ہے۔ ارے یہ دن امام
کی شہادت کا ہے۔ کہنے لگا۔ اللہ اکبر! یہاں آج اتنے دنوں بعد خبر ہنسی ہے
یا تم لوگ سور ہے تھے۔ اسی طرح ہمارے ان مدعاوں میں مجت رسول (حرب
رسول کا دم بھرنے، نفرہ لگانے والوں) کی بھی یہی حالت ہے کہ سال بھر
تک غافل رہتے ہیں پھر چونکتے ہیں۔ کیا اسی کا نام مجت ہے، ہمارے جی
کو تو یہ مجت نہیں لگتی بلکہ حقیقت میں ان کے جی کو بھی نہیں لگتی۔ مگر رسم
اور اصل حق کی صفائی (اور مخالفت) نے ان کو مجبور کر کھا ہے۔ اللہم امعظنا۔
میں تو یہ تکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہر وقت
کرو، اور ایسی کتاب اپنے ساتھ رکھو (جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے حالات زندگی اور آپ کے معمولات لکھے ہوں تاکہ تم بھی ان کی قدم

قدم پر پروردی کر سکو۔

پھی مجت کی علامت

مجت کی علامت میں نے بتلائی، کہ محبوب کی ہربات کا ذکر ہو، ولادت شریفہ کا بھی، رضاعت کا بھی، آپ کی سماوت کا بھی، عادات کا بھی، عبارات کا بھی (اور آپ کے بتلائے ہوئے احکامات کا بھی) اس میں نہ کسی مہینہ کی پچھے تخصیص ہے، نہ کسی مقام کی، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ تخصیص لازم کے بغیر اس ماہ (ربيع الاول) میں [ذکر میلاد] جائز ہے۔

مجت میں دکھلا وانا نہیں ہوتا

کیا بخون نے یہی کی سالگرد کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے قید کیسے، وہ تو ہر وقت کا وظیفہ ہونا چاہئے۔ اب تو لوگ چاہتے ہیں کہ ذکر بھی اگر ہو تو دوسروں کو دکھلا کر ہو بھائی، مجت میں دکھلانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کے لیے انسان مجت سے کیا کچھ نہیں کرتا مگر کیسی کو دکھلاتا پھرتا ہے (اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت تو اولاد سے بھی زیادہ ہونا چاہئے) بر سے

لِ النور ص ۲۳، لِه السُّور ملحوظہ مجمع البحور ص ۲۲ ص ۲۳۔

۳۵ " ص ۳۔

خود آپ کا فرمان ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کی۔ عرض کیا گی۔ قبول کس نے نہیں کی۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے قبول نہیں کی۔ (بخاری، مشکوہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (ترمذی، مشکوہ)

فائدہ | اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کی علامت آپ کی سنت سے محبت ہے۔

بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے

(بغیر اطاعت کے محض زبانی محبت کا دم بھرنے والوں کی) بلاشبہ ایسی مثال ہے کہ مثلاً ہندوستان میں ایک حاکم نائے السلطنت ہو کر آیا اس کے آنے کی خوشی میں لوگوں نے بڑے جلسے کیے، مٹھائیاں تقسیم کیں اور بڑے لکھر دیئے۔ مدحیہ اشعار کہے اور انہی بزرگوں کا ایک

اخبار بھی نکلتا تھا، جب وہ حاکم اس جلسے سے چلا گیا تو اجارت میں بغاوت انگریز مضمون لکھنے شروع کر دیئے۔ کیا ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ لوگ حاکم سے پچھی مجحت کرتے تھے۔

یہی حالت ان لوگوں کی ہے مجحت رسول کا دم بھرتے ہیں۔ اور رسول ہی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے عید میلاد النبی تراشی ہے (ان میں سے بعض لوگوں نے) ولادت شریفیہ کے بیان میں یہاں تک بے ادبی کی ہے کہ صبح صادق کے وقت وہ بیان ہوا اس لیے کہ حضور مکی ولادت شریفیہ اسی وقت ہوئی ہے۔ اور ایک ہجوارہ لٹکایا گی۔ غرض پوری نفل بنائی گئی۔ اگر یہی نفل ہے تو خدا خیر کرے۔ ایک عورت کو بھی لادیں گے اور اس سے کہہ دیں گے کہ چالایا کرے فعوذ بالله من غضب رسوله علی هذہ المختربات (ان خرافاتِ اللہ کی پناہ) صاحبو! جب کوئی شی حد سے بڑھتی ہے تو صراط مستقیم سے بہت درجاء طریق ہے۔

حبت رسول کا تقاضا اور ہمارے دل کا بھور

درactual انسان کا نفس راحت طلب ہے جس بات میں کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے جان چراتا ہے۔ احکام کے تذکرہ میں چونکہ احکام پر عمل کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔

کانپور میں مجھ سے ایک صاحب ہےنے لگے کہ لوگوں نے میلاد شریف

کوشا نے کا ایک اور بھی طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اس میں نماز اور روزہ کا ذکر کیا

جاتا ہے؛
اللّٰہُ اکبر ! بتلا نئے جو لوگ نماز وغیرہ کے تذکرہ کو حضور کے
ذکر کا مثنا کہیں کب وہ محب رسول ہیں ؟ صاحبو ! یہ سب امور بھی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہیں ۔

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب (جو بہت بڑے بزرگ گزرے
ہیں ان سے) میلاد کی بابت پوچھا گیا انہوں نے فرمایا کہ یاں ہم توہر وقت میلاد کا ذکر
کرتے ہیں۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ۔۔۔۔۔
پڑھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوتے تو ہم یہ کیوں پڑھتے
آپ کا ذکر توہر وقت ہونا چاہئے اور آپ کی ہر ادا آپ کے عمل اور
آپ کے ہر قول کا ذکر ہونا چاہئے۔

(انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر ذکر میں (کسی نہ کسی بہانے سے)
اس کا ذکر نکال لیتا ہے۔ اور ہر گفتگو کا خاتمه اسی کے تذکرہ اور یاد پر
ہوتا ہے۔ جو چیز خیال میں لبس جاتی ہے وہ ہر وقت یاد آتی ہے جس کو
خدار رسول سے محبت ہو تو اگر ہر بات میں وہی یاد آؤں تو کی تعبیر ہے۔
صحابہ کرام کی توبیہ حالت تھی کہ بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ
مبارک آ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف توہر بات میں آ جانا
چاہئے، اس کے واسطے کسی اہتمام کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیا
 ضروری ہے کہ اگر بیان ہو تو حرف ولادت شریعہ اور محرمات یعنی کا
 بیان ہو (اور آپ کے بیان کردہ احکام دعوت و تسلیغ کو بالکل نظر انداز
 کر دیا جائے) آپ کی توہر بات قابل ذکر ہے۔

گرائیں کا نفس راحت طلب ہے جس بات میں کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے جان چراتا ہے اور ذکر ولادت میں آسانی ہے کہ زبان سے ذکر کریں کھڑے ہو گئے (بس کافی سمجھ لیا) اور اگر کسی متبوع سنت نے حق بات کہہ دی تو اس پر ملامت کی بوچاڑا شروع کر دی۔ کہیں اس کو وہابی ہبنا شروع کر دیا، کہیں تکفیر کر دی۔ لہ میں عرض کرچکا ہوں کہ ولادت شرفیۃ کے ذکر سے زیادہ احکام کا ذکر برکت کا موجب (ذریعہ) ہے پھر ان احکام کا ذکر کیوں ہمیں کرتے یہ سب ذکر رسول ہی تو ہیں۔ اگر حضور ﷺ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو جیسے ذکر ولادت آپ کا ذکر ہے۔ ایسا ہی **آتَيْمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكُوَةَ (من اذ قائمَ كرو زكوة ادا کرو۔ بھی آپ کا ذکر ہے ... وَلَا خَفَرَدُوا الْرِزْقَنِ (زناء کے قریب بھی مت جاؤ) بھی آپ ہی کا ذکر ہے** ھٹل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُتوَا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (اے بنی مومنو سے کہہ دو کہ نگاہیں سچی رکھا کریں) یہ بھی آپ کا ذکر ہے۔ بس بات وہی ہے کہ ایک جگہ تو کرنے کا کام ہے وہ نفس پر گرائیں گزرتا ہے اور دوسرا جگہ کچھ کرنا ہمیں پڑتا اور چلتے وقت نذرانہ ملتا ہے، مٹھائی ملتی ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ مشقت کی چیزوں کا ذکر نہیں اور جس میں نفس کو خوشی تھی اس میں سُرخزو ہو گئے۔ جا ب اگر محبت رسول اسی کا نام ہے تو ایسی محبت کو سلام ہے۔

خوشی منا نے مٹھائیاں تقسیم کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

— کا حق ادا نہیں ہوتا —

محبت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جلے کسی عربی شاعر نے خوب کہا ہے۔

تَعْصِي الرَّسُولَ وَأَنْتَ تَظْهَرُ حَبَّةً ؛ هُذَا الْعَرَبِيُّ فِي الْفُعَالِ بَدِيعٌ
لَوْكَانَ حُبِّكَ صَادِقًا لَطَعْتَهُ ؛ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُعِبُّ مُطْمِئِنٌ
ترجمہ و مطلب، یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اپنی جان کی قسم یہ تو بہت انوکھی اور عجیب بات ہے، اگر تیری محبت پچی ہوتی تو حضور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا۔ اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔

(اس کے بعد عید میلاد النبی منا نے والوں اور میلاد پرستوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مجلس میلاد (اور جلوس و بجاوٹ) کا اہتمام کرتے ہیں، بانش کھڑے کر رہے ہیں، ان پر کپڑے منڈھر رہے ہیں (معنی لگار ہے ہیں) روشنی کا انتظام کر رہے ہیں اور اس کے درمیان میں جو نمازوں کے وقت آتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے اور رُڑاڑھی کا صفائیا کرتے ہیں۔ کیوں صاحبو محبین رسول (عاشق رسول) کی ایسی ہی صورتیں ہوئی ہیں۔ اور ایسی ہی ان کی لہت ہوئی ہے؛ کیا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی حق ہے کہ روپیوں کی مٹھائیاں منگا کر تقسیم کر دی (سبجاوٹ کر دی) اور سمجھ لیں کہ ہم نے رسول کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پیشہ ور

پیرزادہ سمجھا ہے۔ کہ تھوڑی سی مٹھائی اور جلوس و چند دل اور رزق برق روشنی پر خوش ہو جائیں۔ تھوڑے سے نذرانہ پر راضی ہو جائیں۔ توہہ توبہ، لغوز بالہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبت کرنے والوں سے خوش نہیں ہیں۔ پس محین (ادرع اشقر رسول) وہ لوگ ہیں جو اقوال و افعال، وضع قطعہ ہعمل میں حضورؐ کا اتباع اور اطاعت کرتے ہیں۔

میرے ایک دوست حافظ اشراق ہیں وہ ذکر رسول کے فلسفتے ہیں وہ کبھی کبھی محبت کی وجہ سے ذکر ولادت مرقد طریقہ سے کرتے ہیں، انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شفاعت نہ کریں گے جو ہماری بہت تعریف کرے۔ ہم اس کی شفاعت کریں گے جو ہماری اطاعت کرے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہو، اور نعمتیہ اشعار بہت پڑھتا ہو لیکن اطاعت نہ کرتا ہو، اس کی شفاعت نہ کریں گے۔ لہ

۱۔ وعظ السرور م ۱۲۶ ہے یعنی وہ شفاعت نہ فرمائیں گے جو مقربین کے لیے ہوگی۔

بَابٌ

بَارَةُ زَيْنِ الْأَوَّلِ كَسْجَاوَط

۔ اور مسلمانوں کی بے حسی ۔

رَبِيعُ الْأَوَّلِ کے مہینہ میں بہت جگہ میلاد (جشن، جلسہ، جلوس کا) اتنا ہوتا ہے۔ بعض مقامات میں (جشن، عید میلاد النبی) منانے (اور جلسہ جلوس نکالنے اور سجاوٹ) کے لیے اور مٹھائی تقسیم کرنے کے واسطے چندہ ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مسجدوں کو سجا�ا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے طرز پر سجا�ا جاتا ہے کہ اس میں ایک چھتر بنایا جاتا ہے جحال لٹکائے جانتے ہیں، مسجدوں کو ایں بنایا جاتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہندو نے (شادی میں) اپنے گھر کو سجا�ا ہے (اور اب تو سڑکوں کو سجا�ا جاتا ہے، روشنی کا اسراف ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے سب جانتے ہیں) کیا اس کو محبت کھیں گے؟ ہاں محبت تو ہے گرائے نفس کی محبت ہے۔

ان لوگوں سے کوئی پوچھئے کہ تم نے اپنے حظ، نفس کے مزے کو تو محفوظ رکھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر جو سخت مصیبت آرہی ہے اور وہ ڈانو ڈول ہو رہا ہے۔ اس کی تم نے کیا مد کی اس کو کیا سہارا پہنچایا۔ ایک

وہ مسلمان (جو بھی اپنے مظلوم ہیں) اسلام کے لیے اپنی گرد نیں گزارہ ہے، میں اور ایک یہ میں کرآن کو (سجاوٹ) اور مٹھائی کھانے کی سوجھ رہی ہے، ان سے قدم دے کر پوچھا جانے کر اکراں وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ سے دریافت کیا جاتا کہ یہ چندہ کار و پیسہ ہم (سجاوٹ) اور مٹھائی میں ضر کر دیں یا آپ کے جانب بازوں (مجاہدین اور مظلوم مسلمانوں) پر لگا دیں تو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائے دیتے کہ مٹھائی میں صرف کرو۔

صاحببو! کیا کسی در دنہ کو ایسے وقت میں مٹھائی کا کھانا بھلا معلوم ہو سکتا ہے، یا نئے کس منہ سے ایسی حالت میں بھی لوگوں سے مٹھائی کھانی جاتی ہو گی؟ کیسی بے حسی ہے، کتنا بڑا اطمینان ہے اور پھر غصب یہ ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں مجت کا۔ کیوں صاحب آپ نے تو (جشن) عید میلاد النبی کر لیا۔ اور ترکوں نے (مجاہدین نے) اپنی جان لڑائی، تو کون شخص بھب رسول ہوا؟ لے

عید میلاد النبی میں جلد پسندی اور اسکی سیاسی رنگ

۱۲ روزہ اول میں سجاوٹ اور اچھے کپڑے پہننا اور جمیع ہو کر دعاء کرنا

عید میلاد النبی پہلے لوگوں میں رائج تھی کہ اس میں کپڑوں کا بدلتا اور

مکان سجانا، احباب کو جمع کرنا، رسم کے طور پر ذکر شریف کا اہتمام کرنا۔ شیرینی کا انتظام کرنا، مٹھائیں تقسیم کرنا) یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ مگر اب لوگوں نے اس میں ایک اور سیاسی رنگ چڑھایا ہے وہ یہ کہ بارہ ریسیں الاول کو اہتمام کے ساتھ سب لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر دقرآن پاک کی تلاوت اور دعاء کریں۔ بلے شک مسلم نوں کی فلاج کے واسطے دعا، بہت اچھی چیز ہے مگر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دین میں ایک چیز کا بڑھانا وہ یہ کہ جمع ہونے کے لیے یہ تاریخ متعین کی جائے یہ کیسے جائز ہوگی۔

اور کہتے ہیں کہ اس میں دین کی شوکت ہے۔ مجھ سے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا، کہ لغزوں کی منع نہیں کرنا چاہئے کیوں کہ اس میں کتب دکھانے سے مشق ہو جاتی ہے۔ شیعات (بہادری) کی تحریک ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے فرمایا کہ شب برادت میں آتشازی سے منع نہیں کرنا چاہئے کیوں کہ اس سے بہادری کا اسپرٹ محفوظ رہتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ، کسی قدر بے حسی غالب ہو گئی ہے۔ اور لوگوں کی عقليں کیسی مواف ہو گئی ہیں۔ اگر ان کے قبضہ میں دین ہوتا تو یہ حضرات خدا جانے اس میں کیسے کچھ کتریونت کرتے۔

ما جو! تمہارے اوپر ایک شرعی قانون حاکم ہے تم کو اس کا ہرگز اختیار نہیں کہ تم خود کوئی قانون بن لاؤ اور جو قانون تمہارے پاس داللہ کا دیا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کا تم کو حکم ہے۔

دیکھو بہت سے قانون ایسے ہیں کہ وہ حکام کے حق میں مفید ہو سکتے ہیں
وہ حکام کی اس میں عذالت ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص، تعریفات ہند پھینے کے
وقت اخیر میں مثلاً یہ ایک دفعہ بڑھادے رجو شفیع حکام کے نام کے ساتھ
”جناب“ کا لفظ نہ کہے گا اس پر پچاس روپے جرمانہ ہو گا تو لقیح قانون
کے وقت جب اس زیارتی کی اطلاع ہوئی فوراً اس شخص کے نام ارنٹ
جاری ہو جائے گا اور اس کے جرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا بنانا
صاحب سلطنت کا کام ہے تو جب کسی شخص نے کوئی قانون بنایا، تو
اگرچہ وہ قانون سراسر حکام کے لیے مفید ہی کیوں نہ ہو لیکن در پرداہ اس
قانون بنانے والے نے اپنے صاحب سلطنت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بدععت سراسر مسلمانوں کے لیے موجود
(بدعتی) کے گمان کے مطابق نافع ہو لیکن دین سے زائد ہو۔ تو وہ
ایسی ہی ہے جیسے کہ یہ قانون بڑھانا تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی۔ یہ جواب
ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ فلاں بدععت میں یہ مصلحت ہے۔

صاحب؟ اس میں توحید اور رسول پر سخت اعتراض لازم آتا ہے
کہ فلاں امرنا فع تھا لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو دین میں نہیں رکھا۔۔۔۔۔
لَغُورَ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكَ

عصرِ عید میلاد النبی پر آج کل یہ رنگ چڑھایا گیا ہے اور مقصد اس
سے وہی قومی شوکت کا اظہار ہے۔ رہی دعا، تو وہ نمازوں کے بعد بھی
ہو سکتی ہے اور صرف غاد کے لیے جو جلسے کیے جاتے ہیں (عموماً)، ان میں¹
زیادہ تر ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بس محض اس
واسطے کے اپنا نام ہو۔

یہ انگریزی خوانوں کا حال تھا، بے چارے اپنی اس ایجاد کا اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتے۔ کہ اس میں قومی مصلحت ہے مگر کوئی شرعی تسلیم بیان نہیں کرتے یہ۔

ربيع الاول کے منکرات اور علماء اہلسنت والجماعت

بارہ ربیع الاول کے موقع پر جو خرافات و منکرات لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، کیا وہ منع کے قابل نہیں ہیں؟ آپ تو اس کی مخالفت سے وحشت کرتے ہیں جس کی کوئی اصل تجویز قرآن و حدیث میں نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس درخت کو کہ جس کی ایک درجہ میں فضیلت قرآن مجید میں خود موجود ہے لفَّتَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، محفوظ اس لیے جڑ سے کٹوادیا ہتا کہ لوگ اس کی زیارت کا زیادہ اہتمام کرنے لگے تھے۔

حلا جبو! جو اس طین امت (علماء، حق اہل سنت والجماعت) ہیں وہ دین کی خرابی پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، وہ محفوظ اپنی بدنامی کے خوف سے ہرگز خاموش نہیں ہو سکتے، اگرچہ ان سے کوئی ناراضی ہو، اور میں تو یہ بتا ہوں کہ حق سن کر کوئی ناراضی نہیں ہوتا اگر سمجھا کر کہا جائے، زیادہ تو جو لوگ ناراضی ہوتے ہیں اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناصح (سمجا نے والے) ادھوری بات کہتے ہیں جس سے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اصل ہی کے منکر ہیں، پوری بات کہنے والے سے کوئی نہیں بگرتا۔ اور اگر کوئی پوری بات کہنے پر بھی بگرے تو اس میں خود زیغ (بھی اور مگر اسی) ہے یہ۔

بائب

عید میلاد النبی کی سہم

اب ایک ترقی اور ہوتی ہے کہ (۱۲ ار ریبع الاول) کو لوگ عید منا نے لگے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے عید میلاد النبی۔ میلاد کے متعلق تو علماء نے مستقل رسالے لکھے ہیں جیسے برائین قاطعہ و عزیزہ۔ اور احقر نے بھی اصلاح الرسم میں مفصل بحث لکھی ہے لیکن اس نئی رسم کے متعلق جس کا نام عید میلاد النبی رکھا گیا ہے اب تک کوئی رسالہ نظر سے نہیں گذرा۔ مفصل بحث اس کے متعلق (دلائل شرعیہ کی روشنی میں کہیں) نہیں کی گئی۔ آج اسی کے مستقل بیان کرنے کا ارادہ ہے۔

عید میلاد النبی کی ایجاد

ایک بہت بڑی غلطی (اس ماہ میں) عید میلاد النبی کی ایجاد ہے اور یہ ایک مسلمان بادشاہ کی ایجاد ہے۔ اس نے عیسایوں کے مقابلہ میں اس

کو ایجاد کیا تھا، کہ جیسے ان کے یہاں بڑے دن میں خوشی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے اسی طرح ہم بھی کریں گے۔ اور اس بادشاہ کی یہ رائے غلط تھی اور اس کا عمل گو سنت (اور شریعت) کے خلاف تھا مگر اس کے اہتمام سے پیغام حاصل تھی اور اب تو وہ بھی نہیں کیا، مٹھائی تقسیم کر دینے سے یا لوگوں کے جمع ہونے سے (غیر قوموں کا مقتا بد اور) ان کا توڑ ہو سکتا ہے؟

حضرات! اسلام کو ان عارضی شوکتوں کی ضرورت نہیں، اسلام کی تو دہشوت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں نے نی باس بد لئے کے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ.....

فَنَحْنُ قَوْمٌ أَعْزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ (کہ ہم مسلمان ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عربت بخشی ہے)۔

صاحبوا! اگر ہم بچے مسلمان ہیں تو ہماری عزت رب کے نزدیک ہے، ہماری عزت سامان سے نہیں ہے اگر ہے تو بے سر و سامانی سے ہماری عزت ہے۔ لہ

عید میلاد النبی شرعی دلائل کی روشنی میں

کسی زمانہ میں جس قدر فضیلت زیادہ ہوتی ہے اسی زمانہ میں حدود شرع سے تجاوز کرنا اثرا اور رسول کو اسی قدر زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے اور حدود شرع سے تجاوز کرنے کا معیار صرف شرعی دلائل یعنی کتاب و سنت اور اجماع وقتی اس مجہد ہے۔

اور ان سب دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو اعمال بعض لوگوں میں رائج اور شائع ہو گئے ہیں۔ مثلاً عیدِ سیلاد (یعنی عید کی طرح خوشی منانا، جلوس نکالنا، بخوب روشنی کرنا، جھنڈے نصب کرنا وغیرہ ذلك) یہ سب حدود سے نجاو ز کے افراد ہیں (ان سب کی تفصیل آگے آرہی ہے)، پس لامحہ الیہ رب اللہ و رسول کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہوں گے لہ

بدعت کی پہچان

بدعت کی ایک پہچان بتانا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث اجماع، قیاس، چاروں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اس کی پہچان کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے بھائیوں کے جو اعمال ہیں (مثلاً یہی بارہ ربيع الاول کی رسیمن عیدِ سیلاد ڈالنی اور عرس وغیرہ) جتنے اعمال ہیں کسی اصل سے ثابت نہیں ہیں۔ اور ان کو دین سمجھ کر کیا جانا ہے۔ یا نہیں یہ

بدعت کی قباحت کا راز یہ ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو پھر بدعت کے منع ہونے میں تعجب نہ ہو۔ روزمرہ میں اس کی مثال دیکھئے۔ اگر کوئی صاحب جو گورنمنٹ کے اطاعت گذار بھی ہو وہ گورنمنٹ کے قانون کو طبع کریں اور اخیر میں ایک دفعہ (قانون) کا اضافہ کر دیں اور (وہ قانون اضافہ شدہ) ملک و سلطنت کے لیے بے حد مفید بھی ہو۔ شب بھی اس کو جنم سمجھا جائے گا اور یہ شخص سزا کا مستحق ہو گا۔ پس جب

دینا کے قانون میں ایک قانون کا اضافہ جرم ہے، تو قانون شریعت میں ایک دفعہ (قانون) کا اضافہ جس کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں، کیوں جرم نہ ہوگا۔^۱

سنت و بدعت کا شرعی خابطہ جس سے عمل کے

متعلق فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ — پسنت ہے یا بدعت
ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہوں اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جتنی
چیزوں خیرالقول کے بعد ایجاد ہوئی ہیں، ان میں کون سی بدعت ہے اور
کون سی مندوب و مستحب اور شریعت سے ثابت ہیں اور اس سے یہ بھی
 واضح ہو جائے گا کہ اس خوشی کے ظاہر کرنے کا کوئی مقبول (پسندیدہ) طریقہ
ہے یا نہیں، اور یہ مروجہ طریقہ بدعت ہے یا نہیں۔

ایجاد کردہ چیزوں کی پہلی قسم

پس جانا چاہیے کہ خیرالقول کے بعد جو چیزیں ایجاد کی گئیں، ان کی
وقتیں ہیں، ایک تعداد کے ان کا سبب داعی بھی جدید ہے (یعنی خیرالقول میں
اس کی حضورت کے اباب نہیں پائے گئے) اور وہ کسی مامورہ کی موقوفیتیہ
ہیں (یعنی کوئی شرعی حکم اس پر موقوف ہے) کہ ان کے بغیر اس شرعی حکم پر
عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے دینی کتابوں کی تصنیف اور مدرسون اور رخانوں
کی تعمیر کے حضور کے زمانے میں ان میں سے (اس انداز کی) کوئی اشیٰ نہ تھی اور

ان کا سبب دائمی بھی جدید ہے اور نیز یہ چیزیں ایسی ہیں کہ شرعی حکم ان پر موقوف ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سمجھئے کہ خیر القرون میں دین کی حفاظت کے لیے جدید واسطوں میں سے کسی سٹی کی ضرورت نہ تھی۔ قوتِ حافظ اس قدر قوی تھا کہ جو کچھ سننے تھے وہ سب نقش کا الجھر ہو جاتا تھا۔ فہم ایسی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی، کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں، تدین تقویٰ بھی غالب تھا۔

اس کے بعد دوسرا زمانہ آیا، غفلتیں بڑھ گئیں، قویٰ اکمزور ہو گئے، ادھر اہل ہوا، (یعنی خواہش پرستوں) اور عقل پرستوں کا غالبہ ہوا، تدین معنوب ہونے لگا، پس علماء امت کو دین کے ضالع ہونے کا قویٰ اندیشه ہوا۔ پس اس کی ضرورت واقع ہوئی۔ کہ دین کے تمام اجزاء کی تدوین کی جائے۔ چنانچہ دینی کتب میں حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقائد میں تصنیف ہوئیں اور ان کی تدریس کے لیے مدارس تعمیر کیے گئے۔ — اس لیے کہ اس کے بغیر دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔

پس یہ وہ چیزیں ہوئیں کہ ان کا سبب جدید ہے کہ خیر القرون میں (یعنی صحابہ تابعین کے عہد میں) نہ تھا۔ اور دین کی حفاظت اس پر موقوف ہے کہ پس یہ اعمال گو صورۃ بدعت ہیں لیکن حقیقت میں بدعت نہیں بلکہ اس قاعدہ سے مقدمة الواجب واجب (یعنی واجب کا ذریعہ بھی واجب ہوتا ہے اس قاعدہ سے یہ چیزیں) واجب ہیں۔

ایجاد کردہ چیزوں کی دوسری قسم

دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جن کا سبب قدیم ہے (یعنی خیر القفرن عہد نبوی، عہد صحابہ و تابعین میں بھی وہ سبب موجود تھا) مثلاً مروجه میلان کی مجالسین، تیجہ، دسوائی، چہم وغیرہ بدعات کہ ان کا سبب قدیم ہے۔ مثلاً مجلس میلان کے منعقد کرنے کا سبب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ پر خوشی ہے اور یہ سبب حضور کے زمانہ میں بھی موجود تھا، لیکن حضور م نے یا صحابہ رضی نے مجالسیں منعقد نہیں کیں، کیونکہ نفوذ بالشہر صحابہ کا فہم یہاں تک نہیں پہنچا تھا، اگر اس کا سبب اس وقت ہوتا تو البتہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کا منتشر موجود نہ تھا، لیکن جب اس کا باعث اور سبب اور اس کی بنیاد موجود تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نہ حضور نے کبھی مجلس منعقد کی، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے، ایسی شی کا حکم یہ ہے کہ وہ صورۃ بھی بدعت ہیں اور معنی بھی۔

یہ قاعدہ کلیہ ہے سنت اور بدعت کے پہنچانے کا اس سے تمام چیزوں (اور اختلافی مسائل) کا حکم مستبطن ہو سکتے ہے ازد ان دونوں فضموں میں ایک عجیب فرق ہے، وہ یہ کہ پہلی قسم کی تجویز کرنے والے خواص یعنی علماء ہوتے ہیں، اور اس میں عوام لصرف ہیں کرتے۔ اور دوسری قسم کی تجویز کرنے والے عوام ہوتے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ لصرف کرتے ہیں۔ چنانچہ مجلس شریف کی مجالس کو ایک بادشاہ نے ایجاد کیا ہے اس کا شمار بھی عوام ہی میں سے ہے۔ اور عوام ہی اب تک اس میں لصرف کر رہے ہیں یہ

عید منانا ایک شرعی حکم

عید ایک ایسا زمانہ ہے جس میں ہم کو بٹاشت (یعنی خوشی ظاہر کرنے) کا حکم ہے اور چونکہ یہ دینی خوشی ہے اس لیے اس کے ظاہر کرنے کا طریقہ بھی دین ہی سے معلوم کرنا چاہئے۔

ابس کی تفصیل یہ ہے کہ خوشی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی خوشی ایک دن کی خوشی، سو دین کی خوشی پر کسی خاص پہنچت (یعنی کسی خاص طریقے سے) خوشی منانا، یہ وحی کا محتاج ہے یعنی اگر ہم کسی مذہبی خوشی میں کسی خاص طریقے سے خوشی منانا چاہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے اس موقع پر عید کرنے اور خوشی منانے کی ہم کو اجازت دی ہے یا نہیں۔ کیوں کہ اس میں اپنی رائے سے اختراع کرنا، (یعنی گڑھ لینا) ایک بڑے مقصدہ (اور غرائبی) کو متضمن ہو گا یعنی چونکہ اس کی اصل بناء دین ہے اس لیے عوام اس گڑھے ہونے طریقے کو بھی دین سمجھیں گے اور یہ بہت بڑا مقصدہ ہے۔ البتہ دنیا کی خوشی میں جب کہ اس میں کسی اور خرابی کا اندر لشیہ نہ ہو، خود اپنی تجویز سے بھی ہو سکتی ہے۔

آج کل ہندوستان میں ہمارے بھائیوں نے جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت (یعنی ۱۲ اریاض الاول) کو یوم عید منانے کی تجویز کی ہے، اور یہ خیال ان کے ذہن میں دوسری قوموں کے طرز عمل کو دیکھ جو اپنے مذہب کے اکابر (مقتدا و مبشیوا) کے ساتھ کرتے ہیں ان ہی کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔

لیکن اس تعدادہ مذکورہ کی بناء پر لوگوں کو سمجھ لینا چاہئے کہ یوم ولادت (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن) کی خوشی دینوی خوشی نہیں ہے بلکہ یہ مذہبی خوشی ہے۔ پس اس کے طریقے کے معین کرنے کے لئے

وَحْيٌ إِلَيْكَ أَجَازَتْ ضُرُورَىٰ بَعْدَهُ

حضرتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ مَذَبَّىٰ خُوشَىٰ بَعْدَهُ

اب اس کی دلیل سنئے کہ یوم ولادت (یعنی حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی پیدائش) کا دن مذبّی خوشی ہے۔ یہ توبہ کو معلوم ہے کہ دنیا کا اطلاق اس خطہ زمین پر یا زیادہ سے زیادہ چند فرسخ (چند میل، کلومیٹر اور پر) ہوا پر ہوتا ہے پس اگر کوئی دنیوی خوشی ہوگی تو اس کا اثر اسی خطہ زمین تک محدود رہے گا۔ اس سے آگے نہ بڑھے گا۔ اور حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ولادت کے دن نہ صرف زمین کی موجودات بلکہ ملائکہ عرش، کرسی اور باشندگانِ عالم بالا سب کے سب مرسر و اورثا دماں (یعنی خوش) تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ولادت شریفہ کفر و ضلالت کو ختم کرنے والی اور توحید حق کی حامی تھی۔ جس کی بدولت عالم کا قیام ہے۔

آپ کا ظہور چونکہ تمام عالم کے بقا، کا سبب تھا۔ اس لیے تمام عالم میں یہ خوشی ہوئی۔ جب اس (خوشی) کا اثر دنیا سے آگے بڑھ گی تو اس خوشی کو دنیوی خوشی نہیں کہ سکتے۔ جب کہ معلوم ہوگی کہ یہ دنیوی خوشی نہیں ہے بلکہ مذبّی خوشی ہے تو اس میں ضرور ہر طرح سے وحی (یعنی حکمِ الٰہی) کی ضرورت ہوگی یعنی اس کے وجود میں بھی اور اس کی کیفیت (اور طریقہ) میں بھی۔

اب مجوزین (یعنی عیدِ میلاد النبیؐ کے قائلین) ہم کو دھلائیں کہس وحی سے یوم ولادت کے یوم العید (یعنی آپ کی پیدائش کے دن کو عید منانے کا) حکم

معلوم ہوتا ہے اور اس کی کیا صورت بتلائی گئی ہے یہ
شریعت میں فض رو عیدیں ہیں تیسری کوئی عید نہیں

لوگوں نے عید میلاد النبی کو اپنی طرف مختصر کر لیا ہے (یعنی گڑھ لیا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو عیدیں دی ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اور لوگوں نے تیسری عید اور ایجاد کر لی۔ یہ تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا خاصاً معارضہ (اور مقتبلہ) ہو گی۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے انگریزی قانون کے موافق تعطیلیں (سرکاری چھٹیاں) مقرر ہوں، اور کاتب یا طالب پریس والوں نے ایک تعطیل بڑھادی۔ کہ جس روز کلکٹر صاحب کا تقریر ہوا تھا اس روز بھی تعطیل کر دی جائے کیونکہ بڑے حاکم ہیں۔ اس لیے ان کے تقریر کی خوشی میں مناسب ہے کہ تعطیل کر دی جائے۔ تو اب اہل قانون سے جا کر پوچھلو، وہ بتلائیں گے کہ یہ شخص مجرم ہی اس پر سخت مقدمہ قائم ہو گا۔ سو اچھی خوشی منای۔ کہ جن کے تقریر کے لیے یہ کارروائی کی، وہی مقدمہ قائم کرتے ہیں۔ خوشی کرنا بُری بات ہیں سمجھی گئی لیکن اس میں ایک دوسرا جزو مذکوم (یعنی بہت برا) ہے اور وہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ احکام میں رعایا کو تبدیلی (کمی بیشی) کرنا ہے اور اس وجہ سے مجموعہ فاسد ہو گی اور یہ مقدمہ قائم ہو گی۔

اسی طرح (بارہ ربیع الاول) میں عمدہ کھانا پکانا، کپڑے بدلا خوشی منانا، ان امور پر اپنی ذات کے اعتبار سے غتاب نہیں مگر غتاب اس امر

پر ہے کہ اس میں شریعت کے حکم کو اور قانون خداوندی کو بدلنا ہے۔ کیوں کہ رسول مقبول ﷺ نے صرف دو تہوار تجویز فرمائے۔ عید الغظر اور عید الاضحیٰ۔ اب اس کے سوا تیرتہوار تجویز کرنا شریعت کا مقابلہ اور احکام شرع میں تبدیلی کرنا ہے یہ

باقی

عیدِ میلاد النبی کا شرعی حکم کتاب اللہ کی روشنی میں

شریعت کے چار دلائل ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع، قیاس (عیدِ میلاد النبی کے متعلق، اثاء اللہ چاروں دلائل سے گفتگو کی جائے گی۔ پہلے کتاب اللہ کو لیجئے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں :

أَمْ لَهُمْ شُرٌّ كَمَا شَرَعْنَا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ

بِإِلَهٍ أَلاَهٍ۔ (شوریہ پ)^{۱۵}

"یعنی کیا ان کے لیے شر کا، ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے دین کی وہ بات مقرر کر دی۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔"

یہ آیت صاف بتلارہی ہے کہ دین کی بات اللہ کی اجازت کے بغیر یعنی شرعی دلیل کے بغیر کسی کو مقرر کرنا جائز نہیں (اور یہ یقینی بات ہے کہ عیدِ میلاد النبی دین ہی کی بات سمجھ کر بلا دلیل مقرر کی گئی ہے کیون کہ ظاہر ہے کہ جزوی طور پر (صراحتاً) شریعت میں کہیں اس کا حکم نہیں۔ یہ امر مستحدث (یعنی نئی گھڑی ہوئی)

ہے۔

اور اگر کسی کلیہ (یعنی عام ضابطہ قانون) میں داخل کر کے اس کو جائز قرار دیا جائے (تو بھی جائز نہیں کیوں کہ) اس کا سبب دائمی قدم ہے خواہ وہ سبب

حضرت اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہو، یا اسلام کی شوکت کا انہار ہو کچھ بھی ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بدب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و خیر القرون کے زمانہ میں بھی موجود تھا اور وہ حضرات قرآن و حدیث کو خوب سمجھنے والے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے اور یہ سباب بھی اس وقت موجود تھے یعنی خوشی کا انہار، اور انہار شوکت اسلام کی اس وقت بھی حضورت سنتی بلکہ اس وقت سے زیادہ ضرورت سنتی، مگر ان حضرات نے اس پر عمل نہیں کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کسی کلیہ (اور عام قاعدہ) میں داخل کرنا صحیح نہیں اور یہ بالکل نئی گھڑی ہوئی چیز ہے جس کی (شریعت میں) کچھ اصل نہیں، اور بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ کر کیا جائے، اور اس کو یہ لوگ دین سمجھتے ہیں، پس یہ بدعت ہے اور اس کا چھوڑنا اور اجبہے (وضع السرور ص ۱۶۶)

عید میلاد النبی کا حکم احادیث نبویہ کی روشنی میں پہلی حدیث

حضرت اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هُنَّا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

یعنی جو شخص ہمارے اس دین میں وہ شئی نکالے جو اس میں نہیں اس کا رد کرنا اور اجبہے۔

جو تقریر آیت کے ذیل میں کی گئی ہے وہی یہاں بھی ہے (یعنی یہ کہ عید میلاد النبی دین کی بات سمجھ کر بلا دلیل مقرر کی گئی ہے۔

اور حدیث پاک میں نئی شئی سے مراد وہ شئی ہے جس کا سبب قدیم ہو اور پھر اس وقت عمل میں نہ آئی ہو، باقی جس کا سبب جدید ہوا اور نیز اس پر شریعت کا کوئی حکم موقوف ہو وہ مامنہ میں داخل ہو کر واجب ہے۔

دوسری حدیث

دوسری حدیث سنئے۔ نبائی نے روایت کیا ہے۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا أَقْبَرَى عِيَدًا أَوْ صَلَوةً عَلَى كُلِّ فَإِنَّ صَلَوةَكُمْ مُشْبَلَغٌ إِنِّي حِبِّتُ مَا لِلَّهِ“

(نبائی شریف)

ترجمہ، جاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو کیوں کہ تمہارا درود میرے پاس پہنچ گا جہاں کھیں تم ہو گے۔

اس حدیث میں غیر عید کو خصوصیت کے ساتھ عید منانے کی ممانعت ہے شاید اس میں کوئی شبہ کرے کہ حضور کی قبر پر توسیب جمع ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جانا تو جائز ہے لیکن عید کے طرز پر جمع ہونا منوع ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ عید میں جیسے جمع ہوتے ہیں اس طرح میری قبر پر جمع ہو، اور عید میں اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے اور نیز اس میں تداعی یعنی اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو وہاں

جمع ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ پس اس طرح جمع ہونے سے ممانعت ہے اور اتفاق سے (یعنی بغیر بلاۓ از خود) اجتماع ہو جائے اس کی ممانعت نہیں۔ چنانچہ روضۂ اقدس کی زیارت کے لیے جو جاتے ہیں اس میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتیں، اس کی کوئی خاص متعین تاریخ نہیں ہے بلکہ آگے پیچھے کیف ماتفاق (یعنی جس کو جب اتفاق ہوتا ہے موقع ملت ہے)، قافلے جاتے ہیں اور زیارت کر کے چلے آتے ہیں اور نہ کچھ اہتمام ہے کرب کا اجتماع ضروری سمجھا جاتا ہو۔ بہر حال اس حدیث سے صراحت ثابت ہوتا ہے کہ قبر شریف پر بطور عید کے جمع ہونا ناجائز ہے۔ پس جس طرح عید کانی (یعنی مکان کے اعتبار سے مثلاً قبر شریف کو عید بنانا، منوع اور ناجائز ہے اس طرح عید زمانی (یعنی زمانہ کے اعتبار سے مثلاً زیع الاول میں عید منانے کی) ممانعت ہوگی۔ لہ

تنبیہ! اس حدیث کی روشنی میں درود شریف جو کبھی فرض اور واجب بھی ہوتا ہے جب اس کے لیے عید کے طرز پر جمع ہونا جائز نہیں ہے تو کسی اور گھر طریقے ہوئی غرض کے لیے جمع ہونا کیسے جائز ہوگا۔ لہ

تیسرا حدیث شریف

تیسرا حدیث یعنی مسلم شریف کی روایت ہے۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْتَصُوا كِتَلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامِ مِنْ بَيْنِ الَّذِي أَلِيَ وَلَا تَخْتَصُوا

لِيَكُونَ الْجُمُعَةُ مِنْ يَوْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
فِي صَوْمَرٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ (مسلم مشریف)

ترجمہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام راتوں میں سے جمعہ کی رات کو شب بیداری کے ساتھ خاص مت کرو اور تمام دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزہ کے ساتھ خاص مت کرو۔ مگر یہ کہ اس دن اور اس تاریخ، کو تم میں سے پہلے سے کوئی روزہ رکھتا ہو۔

اس حدیث سے یہ قاعدہ نکلا کہ جو خصوصیت منقول (اور شریعت سے ثابت) نہ ہو، وہ منوع اور ناجائز ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔

یہ فرعی گفتگو ہے یہاں تو صرف اس قاعدہ کو مستنبط کرنا مقصود ہے کہ ”ایسی تخصیص جو غیر منقول (یعنی شریعت سے ثابت نہ ہو) دین کے اندر جائز نہیں“ اور یہ قاعدہ سب کے نزدیک صحیح ہے۔ جو لوگ جمعہ کے دن روزہ کو صحیح قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی اس قاعدہ کی صحت میں کلام نہیں۔ (یعنی بالکل صحیح ہے)۔

اس کے بعد یوم ولادت (۱۲ ربیع الاول) کو عید منانے کی تخصیص دیکھنے کہ یہ تخصیص کنسی ہے؟ ظاہر ہے کہ منقول نہیں (شریعت سے ثابت نہیں) اور نہ یہ تخصیص بطور عادت (وانتظام) کے ہے بلکہ اس کو دین کی بات سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جو اس کو نہ کرے اس کو بد دین سمجھتے ہیں، اس پر ملامت کرتے ہیں ————— الغرض اس کو دین سمجھتے ہیں۔ پس یہ دین میں تخصیص ہوئی اور غیر منقول ہے (یعنی شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور ایسی تخصیص کی مانعت حدیث شریف میں بیان ہو چکی)۔

خلاصہ یہ کہ تخصیص ناجائز ہے۔ ۱

چوتھی حدیث

حدیث شریف میں ہے کہ عید کے روز کچھ لڑکیاں کھسیل رہی تھیں اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور
ان لڑکیوں کو ڈالا۔

حضور نے فرمایا ان دُنگِ قومِ عِیدًا هذَا عِيدُنَا یعنی اے عمر
منع نہ کرو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

اس حدیث شریف میں ان کے کھیلنے کی اباحت (یعنی جائز ہونے کی)
علت یہ فرمائی ہے کہ یہ ہماری عید ہے۔ جوازِ لعب (یعنی کھسیل جائز ہونے
کو)، یوم عید سے متعلق فرمایا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم عید
کے ساتھ خاص ہے۔ سو اگر ہر شخص کو عید منانا جائز ہو تو ہر روز ایسا العد
(کھسیل، جائز ہوگا) اور منصوص تخصیص (یعنی عید کے دن کی خصوصیت جو حضور نے
فرمائی ہے) باطل ہو جائے گی جس سے شارع کے کلام کا لغو ہونا لازم آئے گا۔

عید میلا و البنی کی ممانعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے فرمان سے ثابت ہے

جواب تیس آج کل لوگوں نے گڑھ لی ہیں یعنی عید میلا وغیرہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہم کو ان باتوں کی تعلیم نہیں دی بلکہ صراحتہ منع فرمایا ہے

اور اصول شریعت سے یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ یہ فعل بالکل
ناجائز اور بدعت و ضلالت ہے، مگر اس دفعہ مجھے ایک حدیث اس کے
متعلق بہت صریح ملی ہے جس سے صاف صاف اس کی ممانعت ثابت ہوتی
ہے، وہ یہ ہے ..

لَا تَتَّخِدُوا قَبْرِيٍّ حِينَدًا

اس حدیث سے عید میلاد کی نفی نہایت واضح ہے اور میرے لیے
یہ حدیث بالکل تسلی سخش ہے، دوسروں کے لیے تفصیل کے ساتھ اس کو
بیان کرتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے "کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ"

پہلے بطور مقدمہ (اور تمهید) کے اس کو سمجھو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی قبر مبارک کو بہت کچھ شرف حاصل ہے کیوں کہ جد اہل رآپ کا جسم مبارک
اس کے اندر موجود ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جسم و روح کے ساتھ
اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیوں کہ آپ قریں زندہ ہیں قریب قریب تمام
اہل حق اس پر متفق ہیں، صحابہ کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ حدیث شریف میں بھی
نص ہے کہ آپ اپنی قبر شریف

میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق بھی پہنچتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ اس حیات
سے مراد ناسوتی نہیں وہ دوسری قسم کی حیات ہے جس کو حیات بزرخیہ
کہتے ہیں — ابنیاء علیہم السلام کی حیات بزرخیہ شہید کی شہادت سے
بھی زیادہ قوتی ہوتی ہے — الغرض یہ بات بالتفاق

امت ثابت ہے کہ ابنیاء علیہم السلام قریں زندہ رہتے ہیں
اور علماء نے (اس کی بھی) تصریح کی ہے کہ وہ بقعہ شریفہ (العنی زین کا وہ حصہ)
جس سے جسم مبارک مس کیے ہوئے ہے تمام اماکن (مقامات) سے افضل

ہے (حثیٰ کہ) عرش سے بھی افضل ہے کیوں کہ عرش پر معاذ اللہ حق تعالیٰ شانہ
بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تو بے شک وہ جگہ سب سے
افضل ہوتی۔ مگر خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے — الغرض بقعة
و قبر شریف تمام اماکن سے افضل ہے۔

اب اسکے بعد سمجھئے کہ قبر شریف (جس کے اتنے فضائل ہیں جس میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور وہ زمین کا حصہ عرش الہی سے افضل ہے) ^{حضرت}
وہ بلا اختلاف بعینہ باقی ہے اس میں کسی کوشک نہیں ہو سکتا اور یوم
الولادت، اور یوم المراج، یومبعث (یعنی جس دن آپ کی پیدائش ہوئی
یا جس دن آپ کو نبوت ملی یا مراج ہوئی وہ دن) یقیناً باقی نہیں کیوں کہ زمانہ
غیر قارہ ہے وہ دن جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اب
یقیناً نہیں لوٹنا بلکہ اس کا مثل لوٹنا ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔

اس کے بعد سمجھو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو عید بنانے سے
منع فرمایا اور اس کا عید بنانا حرام ہو گیا جو کہ یقیناً باقی ہے۔ تو ان چیزوں
کا عید بنانا جو کہ بعینہ باقی نہیں کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ میرے نزدیک
تو اس حدیث سے عید میلاد کی صراحتاً نظری ہوتی ہے، اب بھی کسی کو اس کی
حرمت میں شک ہو تو وہ جانے اور اس کا کام جانے اور اس تقریر سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاعث اور کلام کی جامیعت بھی واضح ہو گئی کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قبر ہی کو عید بنانے سے کیوں منع فرمایا؟
سو اس لیے منع فرمایا کہ اس کی فضیلت و شرافت تو معین اور یقینی ہونے کی
وجہ سے سب کو تیسم ہے۔ جب ایسی چیز کی بابت کوئی حکم بیان کر دیا جائے
کا۔ اس پر ادنیٰ کو قیاس کر کے بغیر بچڑوں کی حکم معلوم ہو جائیگا۔ (اعظ الجہود ص ۲۳۷)

عید میلاد النبی اور اجماع امت

قرآن و حدیث سے تو عید میلاد النبی کی ممانعت اور اس کا بدعت ہو نا ثابت ہو چکا۔ اب رہا اجماع، سو اس سے بھی (اس کی ممانعت) ثابت ہے۔ اس کی تقریر یہ ہے کہ :

قاعدہ اصولیہ ہے کہ تمام امت کا کسی امر کے تک پر منفق ہونا دینی پوری امت کا کسی کام کو نہ کرنا، یہ اجماع ہوتا ہے، اس کے عدم جواز پر (یعنی یہ کہ وہ کام ناجائز ہے، چنانچہ فقہاء نے جا بجا اس قاعدہ سے استدلال کیا ہے جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو ہمیشہ ترک کرنے سے استدلال کرتے تھے۔ مثلاً وہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی لیکن اس میں اذان و تبکیر نہیں تھی۔

اسی طرح جس شیء کو پوری امت نے ترک کر دیا ہو (یعنی اس کام کو نہ کیا ہو) اس کا نزک کر دینا واجب ہے۔ اسی بنابر فقہاء نے عیدین کی نماز کو اذان و تبکیر کے بغیر کرنا ہے۔ پس اگر یہ قاعدہ تسلیم نہیں ہے تو آج سے عیدین میں اذان اور تبکیر کا بھی اضافہ کر دینا چاہئے۔ اور اگر تسلیم ہے تو اس قاعدہ سے اور جگہ بھی کام لو۔ اس پر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ تمام امت نے عید میلاد النبی کو ترک نہیں کیا اس لیے کہ اتنی تو آخر ہم بھی ہیں سو ہم اس کو کرتے ہیں۔ پس اجماع چال رہا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصول فقہ کا مسئلہ قاعدہ ہے کہ جس امر پر گذشتہ زمانہ میں پوری امت کا اتفاق متحقق ہو چکا ہو۔ اب اس اتفاق کو بعد کا اختلاف نہ اٹھائے گا۔ اختلاف متاخر اتفاق متعدم کارافع نہیں۔ پس جب تم لوگوں

نے اس کو ایجاد نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک توامت کا اس کے ترک پر اتفاق تھا۔ اب وہ اتفاق مرتفع نہیں ہو سکتا۔

اس قاعدہ کی ایک جزئی اور ہے وہ یہ کہ علمائے حنفیہ نے نماز جنازہ کا انکار کر

جائز نہیں رکھا اور دلیل یہ کہ صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں۔

غرض یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ امت کا کسی امر کو ترک کرنا اس کے عدم جواز کی

دلیل ہے۔ پس بفضلہ تعالیٰ اجماع امت سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ عید میلاد النبی

بدعت اور امر مخترع ہے اس کا ترک کرنا واجب ہے ۔

عید میلاد النبی قیاس اور اجتہاد کی روشنی میں

اب رہا قیاس۔ تو قیاس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ قیاس جو مجہد سے

منقول ہو، اور ایک وہ جو مجہد سے منقول نہ ہو، اور یہ قاعدہ ہے کہ غیر مجہد کا قیاس مقبول نہیں۔ یہ اُن واقعات میں ہے جو مجہدین کے زمانہ میں پانے گئے ہیں۔

اور جو نئے واقعات پیش آئیں، ان میں غیر مجہد کا قیاس معتبر ہے۔ چنانچہ

جس قدر نئی تجارتیں اور راستیں اس زمانہ میں ہوتی ہیں، سب کا حکم قیاس ہی سے ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے ہم کو قیاس کی ضرورت توجیب تھی جب کہ سلف کے کلام میں اس سے

تعارض نہ ہوتا۔ کیوں کہ ان حضرات کا قیاس ہمارے قیاس پر مقدم ہے ۔

کیوں کہ حضرات سلف علم میں، فراست میں، تقویٰ میں، زہد میں، جہد فی الدین میں۔

غرض سب باتوں میں ہم سے بڑھے ہوئے تھے۔ تو تعارض کے وقت ان

کا اجتہاد مقدم ہو گا۔^{۱۷}

اور حضرات سلف کے کلام میں اس سے (یعنی عید میلاد النبی سے) تعریض ہے
چنانچہ تبعید الشیطان (ابن قیمؓ کی)، اور صراط مستقیم (ابن تیمیہ کی)، اس میں بہت
زورو شور سے اس پر گفتگو کی ہے اور فصیلہ کیا ہے کہ کسی زمان یا مکان کو عید
بنانا منوع ہے۔^{۱۸}

ابن تیمیہ و ابن قیمؓ

ابن تیمیہ اور ابن قیمؓ، استاد شاگرد ہیں۔ دونوں بڑے عالم ہیں۔ یہ دونوں
حلیلی مشہور ہیں مگر حلیلی ہیں نہیں۔ ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مجتہد
ہونے کے مدعی ہیں۔ ایسا محقق کسی بات میں انہوںہ مجتہدین کے خلاف کرے تو
مضائقہ نہیں یہ۔^{۱۹}

ابن تیمیہ اور ابن قیمؓ، بھی بزرگ ہیں، عالم ہیں، متقدی ہیں، ائمہ و رسول پر فدا ہیں
دین پر جان نشار ہیں۔ مگر ان میں فطرہ تیز مزاج ہونے کی وجہ سے تشدید ہو گی۔
ابن قیمؓ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب نسبت (بزرگ) تھے کہ

عید میلاد النبی اصول فقه کی روشنی میں

جاننا چاہئے کہ جس قدر عبادتیں شارع علیاً سلام نے مقرر فرمائی ہیں، ان
کے اسباب بھی مقرر فرمائے ہیں اور اس اعتبار سے مأمور کیا ہے (یعنی جن اعمال کا

۱۷۔ دعوات عبادت ص ۱۳۲۔ ۱۸۔ السروت ص ۱۶۴۔ ۱۹۔ حسن العزیز ص ۲۵۸۔

۲۰۔ الافتافات الیومیہ ص ۹۲۔ ۲۱۔ مخطوطات خرت ص ۱۹۔

حکم دیا گیا ہے ان کی چند قسمیں نکلتی ہیں۔

۱۔ اول تو یہ کہ سبب میں تکرار ہو (یعنی داس عمل کا، سبب بار بار پایا جاتا ہو۔ تو سبب کے مکرر (یعنی بار بار پائے جانے کی) وجہ سے مرتبت (یعنی وہ حکم) بھی بار بار پایا جائے گا۔ مثلاً نماز (واجب ہونے) کے لیے وقت سبب ہے۔ پس جب وقت آئے گا، نماز بھی واجب ہو گی۔

اسی طرح رمضان کا مہینہ پایا جانا رمضان کے روزوں کے سبب ہے جب بھی رمضان ہو گا، روزہ واجب ہو گا۔ اور مثلاً عید کی نماز کے لیے عید الفطر اور قربانی کے لیے یوم الصھیہ (یعنی قربانی کا دن دسویں ذی الحجه) بھی اسی باب سے ہے۔

۲۔ دوسری قسم یہ کہ مرتبت بھی ایک ہو اور سبب بھی ایک ہو جیسے بیت اللہ شریف۔ حج کے لیے چونکہ سبب (یعنی بیت اللہ)، ایک ہے اس لیے مأمور یعنی حج بھی عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ دونوں قسمیں مدرک بالعقل (یعنی عقل سے سمجھو میں آتی ہیں) کیوں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ سبب کے تکرار سے مرتبت بھی مکرر ہو۔ اور سبب کے ایک ہونے سے مرتبت (یعنی حکم بھی) ایک ہو۔

۳۔ تیسرا قسم یہ ہے کہ سبب تو ایک ہو اور سبب (یعنی حکم) کے اندر تکرار ہو جیسے حج کے طواف میں رمل کا اصل سبب توقوت کو دکھلانا تھا۔ اب وہ قوت کو دکھلانا تو ہے نہیں۔ اس لیے کہ اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جب مدینہ طبلہ سے مسلمان حج کے لیے مکہ معطر آئے تو مشرکین نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو شیرب (مدینہ) کے بخار نے کمزور اور بودہ کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ طواف میں رمل کریں یعنی شانے (کاندھے) ہلاتے ہوئے

اکٹر کر طواف کریں تاکہ ان کو مسلمانوں کی قوت کا مشاہدہ ہو۔ اب وہ سبب تو نہیں لیکن مانورہ یعنی طواف میں رمل کا حکم اپنے حال پر باقی ہے۔ یہ امر غیر مرکز بالعقل ہے (یعنی عقل سے نہیں سمجھا جاسکتا ہے، بلکہ شریعت اس کا فصلہ کرتی ہے) اور جو امر خلاف قیاس (خلاف عقل) ہوتا ہے اس کے لیے نفل اور وجی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اب ہم پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا سبب کیا ہے ؟ ظاہر ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ ہونا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ تاریخ گذرگئی یا بار بار آتی ہے، ظاہر ہے کہ خاص وہ تاریخ جس میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی گذرگئی (ختم ہو گئی)۔ کیوں کہ اب جو بارہ زیست الاول کی تاریخ آتی ہے وہ اس خاص یوم ولادت کے مثل (اور مشابہ) ہوتی ہے نہ کہ بعینہ (وہی تاریخ کیوں کہ وہ وقت گذر چکا) اور یہ تو بالکل ظاہر ہاتھ ہے (اس میں دلیل کی صورت نہیں) پس مثل (اور مشابہ) کے لیے وہی حکم ثابت ہونا کسی نفلی (اور شرعی) دلیل (یعنی وجی) کا محتاج ہو گا۔ غیر مرکز بالعقل ہونے کی وجہ سے اس میں قیاس جلت نہیں ہو گا لیکن یہاں ایک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ حضور صے اللہ علیہ وسلم نے پیر کار و زہر کا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روزہ تو خود منقول ہے اور آپ نے وجی سے روزہ رکھا ہے اس لیے اس پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ لہ

عید میلاد النبی عقلی دلائل کی روشنی میں

اب ہم عید میلاد النبی کے متعلق عقلی (لیکن اصولی) گفتگو کرنا چاہتے ہیں

اس لیے کہ ان لوگوں میں بعض عقل پرست بھی ہیں اور وہ اس عید میں کچھ عقلی مصلحتیں پیش کی کرتے تھے جو مکار اور قوم کی طرف راجح ہیں۔ اس لیے ہم اس طرز پر اس سلسلہ کو بیان کیئے دیتے ہیں۔

وہ یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی سے مقصود اہل کتاب —

دین عید (عیساً یوسف) کا مقابلہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش میں جشن مناتے ہیں اس لیے ہم بھی مقابلہ کے لیے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے یوم پیدائش میں عید کرتے ہیں۔ تاکہ اسلامی شوکت ظاہر ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اس وقت کسی درجہ میں صحیح ہوتا کہ جب ہمارے یہاں اخْلَفُ الرُّشُوكَ کے لیے کوئی اُشی نہ ہو۔ ہمارے یہاں جمعہ، عید میں سب شعائر اسلام کے اخْلَفَارَ کے لیے ہیں۔

دوسرے کہ ان کا مقابلہ ہی کرنا مقصود ہے تو ان کے یہاں تو اور دنوں میں بھی عید میں اور میلے ہوتے ہیں تم کو بھی چاہئے کہ ہر ہر دن کے مقابلہ میں تم بھی عید کیا کرو۔

اسی طرح عاشوراء (رسوی محرم) کے دن تعریزی داری بھی کیا کرو تاکہ شیعہ حضرات کا مقابلہ ہو، چنانچہ بعض جاہل مغض مقابلہ کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں اور جناب اگر یہی مصلحت ہے تو ہندوؤں کے یہاں ہولی، دیوالی ہوتی ہے، تم بھی ان کے مقابلہ کے لیے ہولی، دیوالی کیا کرو۔

میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں (جو حدیث ثریف میں آیا ہے) اس سے آپ کو معلوم ہو گا کہ آپ کا قاعدہ (رسوؤں کی تقلید میں عین بنانے والا) بالکل بے اصل ہے۔

حضور صلے اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کفار نے ایک درخت بنار کھاتا
اس پر سہیار لٹکاتے تھے۔ اور اس کا نام ذات الانوار طر کھاتا۔ بعض صحابے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اجعل لنا ذات انوارط یعنی یا رسول اللہ ہمارے لیے
بھی اب ایک ذات انوار مقرر فرمادیجئے تاکہ ہم اس پر سہیار کپڑے وغیرہ لٹکاریا
کریں۔

دیکھئے بظاہر اس میں کچھ حرج معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ کسی درخت پر
کپڑے یا ہتھا رلنکا دینا ایک امر مباح (جائز کام) ہے اس میں تشبہ بھی کچھ نہیں
لیکن چونکہ ظاہری صورت میں ان کی مشابہت تھی اس لیے حضور صلے اللہ علیہ وسلم
کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا، سبحان اللہ ! یہ تو ایسی ہی بات ہوئی جیسے موسیٰ
علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کھاتا ہا اجعل لَنَا إِلَهًا
كَمَا لَهُمْ أَلِهَةٌ

پس جب اتنی مشابہت کو بھی حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا
تو جس صورت میں ان کی پوری شکل بنائی جائے (ان ہی کی پوری تقلید کی جائے)
یہ تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہو گا۔ لہ

الہامی دلیل

ہم نہ خوشی منا سکتے ہیں کیوں کہ آپ کی وفات بھی اس دن
ہوئی ہے اور نہ غمی منا سکتے ہیں کیوں کہ آپ کی پیدائش بھی اس دن ہوئی ہے
اب میں ایک اور دلیل بیان کرتا ہوں جو کہ الہامی دلیل ہے اور اس کے

بیان سے فخر کرنا مقصود نہیں بلکہ ہر امر جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور کہیں مدقون بھی نہ ہلا ہو اور وہ قلب میں القاء ہو، تو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام سمجھا جائے گا۔

وہ دلیل یہ ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وفات (یعنی آپ کی پیدائش اور آپ کے وصال کا دن اور اسی طرح ولادت اور وفات کا ہمینہ (یعنی زیع الاول) بالاتفاق دونوں ایک ہی ہیں اور وصال ووفات کی تاریخ بھی مشہور قول کے مطابق ایک ہی ہے۔ (ایسا کیوں؟) تعجب نہیں کہ اس استحاد میں اس طرف اشارہ ہو کہ کوئی شخص اس دن (ذی ربيع الاول) کو بنی یوم العید بنائے نہ یوم الحزن (یعنی نہ خوشی منائے نہ سوگ اور غم منائے) کیوں کہ اگر کوئی اس کو یوم العید بنانا چاہے تو وفات کا خیال خوشی سے مانع ہو جائے اور اگر کوئی یوم الحزن (عنی کادن) بنانا چاہے تو ولادت شریفہ کا خیال رنج سے مانع ہو جائے۔ اس دلیل سے بھی (۱۲ ربيع الاول کے) یوم العید ہونے کی جڑاکٹ گئی۔

اور چونکہ ان دونوں واقعوں سے زیادہ کوئی اور واقعہ خوشی اور غم کا نہیں ہے (آپ کی پیدائش سے زیادہ خوشی کسی اور واقعہ میں نہیں اور آپ کی وفات سے زیادہ رنج کسی حادثہ میں نہیں) جب ان ہی کے زمانہ میں یوم العید اور یوم الحزن (یعنی عید بنانے اور ماتم کرنے) کی جڑاکٹ گئی تو اور واقعات کے زمانوں کے لیے توبدر جہا اولی جڑاکٹ گئی۔

اگر شرعی دلائل موجود نہ ہوتے تو ہم اس دلیل کو کوئی چیز نہ سمجھتے لیکن چونکہ اب یہ شریعت کے موافق ہے اس لیے ہم اس پر خدا کا شکر کرتے ہیں۔

النور محققہ مواضع میلاد البُنی مطبوعہ لاہور ص ۱۷۶

حضرت اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ اور برخ خود میں منانا

آپ کی توبہ میں ہے

اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سالگرہ (برخ خود) کے طور پر خوشی مناتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایسا کرنے والے جانب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں۔

صاحبہ! کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جلالت و عظمت کے ساتھ دنیا کے بادشاہوں کو حضور سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے قیاس کیا جاسکتا ہے؟ کہ اس کی خوشی کے لیے بس ایک دنیوی رذیل سامان (اور گھٹیا درجہ کا طرز عمل)، اسی طرح کرتے ہو جیسا ان بادشاہوں کے لیے کیا کرتے ہو؟ مجھے اس موقع پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آگئی (جو اگرچہ فرضی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے مفید ہے) کہ وہ جنگل میں رہتے تھے ایک گھُتیا پال رکھی تھی اتفاق سے ایک مرتبہ کتیا نے پچے دیئے تو آپ نے تمام شہر کے معزز لوگوں کو مدعو کیا لیکن ایک بزرگ شہر میں رہتے تھے ان کو نہیں بلایا ان بزرگ نے بے تکلفی کی وجہ سے دوستانہ شکایت کی۔ تو ان بزرگ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ حضرت مسیح رہیاں کتیا نے پچے دیئے تھے اس کی خوشی میں دنیا کے کتوں کی دعوت کر دی اور یہ سخت گستاخی تھی کہ میں ان دنیا کے کتوں کے ساتھ آپ کو مدعو کرتا جس روز میرے اولاد ہوگی اور مجھ کو خوشی ہوگی اس دن آپ کو مدعو کروں گا ان کتوں میں سے ایک کو بھی نہ پوچھوں گا جب اولیاء اللہ کے ساتھ دنیا داروں جیسا برتاؤ کرنا بے ادبی ہے تو سید الانبیاء، (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ دنیا داروں جیسا برتاؤ کرنا کیسے بے ادبی نہ ہوگی؟

(امال الصوم والعبد محقق برکات رمضان ص ۹۰)

بائب

عید میلاد النبی کے قائلین جواز کے دلائل اور ان کا تحقیقی جائزہ

اب عید میلاد النبی کی ایجاد کرنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات سنئے
دلائل کی نسبت ان کی طرف میں نے اس احتمال سے کر دی کہ مثیدان میں سے
کبھی کوئی ان سے استدلال کرنے لگے ورنہ میں نے یہ دلائل ان سے منقول نہیں
دیکھئے بلکہ اگر وہ تو برسوں کوشش بھی کریں تو ان کو ایک دلیل بھی میرنہ ہو۔ اس
واسطے جی تو نہ چاہتا تھا کہ ان کو دلائل دیئے جائیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ
کسی کو گنجائش نہ رہے اس لیے ان دلائل کو جواب کے ساتھ نقل کیئے دیتے
ہوں۔
(السرور متن)

اہل بدعت سے گفتگو کاظمیہ

اہل بدعت سے جب گفتگو کرو تو فرقہ سے کرو، اس میں ان کو گنجائش نہیں
ملتی۔ قرآن مجید متن ہے جس کے مختلف محامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث
بھی ذروجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اہل بدعت جب تمسک کریں گے لیکن یعنی۔
استدلال کریں گے، قرآن حدیث سے کریں گے، مثلاً قیام میلاد کے بارے
میں وَتَعْرِرُوهُ وَسُوْفَرُوهُ سے کریں گے۔

اہل بدعت کو الزامی جواب دینا چاہئے کیوں کہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں

چاہتے یا سمجھ نہیں سکتے، ہاں اگر کوئی فہیم (سمجھدار) ہو اور صحبت چاہتا بھی ہو تو اس کو حقیقت بتلادی جائے (یعنی تحقیقی جواب دے دیا جائے۔

(التبیلیغ ص ۲۹)

کسی آیت و حدیث سے مروجہ عید میلاد النبی کا اتدال درست نہیں

اگر کوئی آیت قُلْ يَفْضُلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ الْأَيْة (یا دوسری کسی آیت سے) استدال کرے تو میں کہوں گا کہ صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور تمام عالم سے (بلکہ پوری امت میں سب سے زیادہ) کلام مجدد کو سمجھتے تھے ان کی سمجھیں یہ شکر کیوں نہیں آیا ؟ خصوصاً جب کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے رگ و رشیہ میں سراپا ت کی ہوئی تھی۔ اسی طرح (صحابہؓ کے بعد) تابعین رحمہم اللہ جن میں بڑے بڑے مجتہدین بھی ہوئے ہیں ان کی نظر پہاں تک کیوں نہ پہونچی ؟
(امال الصوم والعيد ص ۲۹)

ایک آیت سے اتدال اور اس کا جواب

اہل بدعت آیت قُلْ يَفْضُلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَا لَقِيْلَفَرَحُوا سے استدال کر سکتے ہیں اس طرح کہ اس آیت سے فرحت کا امور بہ ہونا (یعنی خوش ہونے کا حکم)، ثابت ہوتا ہے اور عید میلاد النبی بھی اظہار فرحت (یعنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے) ہے لہذا جائز ہے۔

اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس آیت سے تو صرف فرحت کا امور بہ ہونا (یعنی

خوش ہونا، نکلا اور گفتگو تو اس خاص ہمیت (خاص طریقہ) میں ہے (مثلاً جلسہ جلوس کا اہتمام کرنا، جمع ہو کر عید کی طرح خوشی منانا) اور اس آیت سے اس (خاص طریقہ کو) کوئی تعلق نہیں ہے۔

اور اگر کسی کلیہ (عام قاعدة) میں اس کا داخل کرنا صحیح ہو تو فہارنے کتب فہر میں جن بدعتات کو روکا ہے وہ بھی کسی نہ کسی ایسے ہی کلیہ (عام ضابطہ) میں داخل ہو سکتی ہے۔ چاہیئے کہ وہ بھی جائز ہو جائیں (مثلاً عیدین کی نماز میں اذان و تبیر بھی جائز ہو جائے) حالانکہ کتب فہر جو فرقہین کے نزدیک مسلم (اور صحیح قابل تقدیر) ہیں ان میں ان کی ممانعت صراحتاً مذکور ہے۔

(الغرض)، ہم جس بات کو ناجائز کہتے ہیں وہ خاص ہمیت ہے (یعنی مخصوص مروج طریقہ، مثلاً جلوس نکان)، جمع ہو کر خوشی منانا، عید کی طرح اچھے پڑوں کا اہتمام کرنا، ہم تو اس کو منع کرتے ہیں۔ اور آیت فلی فرجوا سے جو فرحت ثابت ہوتی ہے وہ مطلق فرحت ہے۔ پس یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فرحت (خوشی) کو منع کرتے ہیں حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ (السرور ص ۲۶)

آیت مائدہ سے استدلال اور اسکی جواب

عید سیلا دا بنی کے جواز پر ایک استدلال اس آیت سے ہو سکتا ہے۔

”إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ
يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَا إِنَّكَ لَا مِنْ
السَّمَاءِ إِلَّا قُولَهُ رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَا إِنَّكَ لَا مِنْ
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا إِلَّا وَلَنَا وَأَخْرِنَا آيَةً قَلِيقَةً“

(مائہ ۳)

ترجمہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کھواریں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم
کیا یہ ممکن ہے کہ ائمۃ تعالیٰ آسمان سے ہم برکجھ کھانا نازل فرمائیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا تک حکم رکھ کھانا نازل فرمائیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا تک حکم رکھ کھانا نازل فرمائیں کہ یہ عین ہم میں
بجاوں ہیں اور جو بعد میں سب کے لیے ایک خوشی کی بات
ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی ہو۔

(واعظ السرور ص ۱۵۱ بیان القرآن ص ۳۴)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس تاریخ میں نعمت عطا ہوئی ہو، اس کو عید
بنانا جائز ہے اور ہمارے اصول میں یہ طے ہو چکا ہے کہ گذشتہ امتوں کی شریعتیں
اگر حق تعالیٰ ہم پر نقل فرمائے انکار نہ فرمادیں تو وہ ہمارے لیے جنت ہے اور۔
یہاں کوئی انکار نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ عطا نعمت کی تاریخ (جس تاریخ کو
کوئی نعمت عطا ہوئی ہو اس) کو عید بنانا جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت ظاہر ہے کہ نعمت عظیمه (بہت بڑی نعمت) ہے لہذا آپ کی تاریخ
ولادت کو عید بنانا جائز ہو گا۔ ۶

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس امر پر انکار اسی جگہ ہو جاں
وہ نقول ہے۔ دیکھئے۔

وَإِذْ قُلْتَ إِلَيْهِمْ لِكَيْفَةَ اسْجُدُوۤا لِأَدَمَّ آتَيْتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ تَحْيِيْهَا
سلامی اور عظیمی سجدہ نہ قول ہے۔ اور سجدہ تحریکہ عظیمی ہماری شریعت میں منسوب
ہو چکا۔ لیکن یہاں اس آیت میں انکار نہ قول نہیں۔ اس کے لیے دوسرے
دلائل ہیں۔

اسی طرح یہاں سمجھئے کہ جو آیت و احادیث ہم نے عید بنانے کی ممانعت

میں اپنے دلائل میں بیان کی ہیں وہ اس پر انکار کے لیے کافی ہیں۔ یہ جواب تو اس تقدیر پر ہے جب کہ آیت کے معنی یہی ہوں جو مستدِ اسناد کرنے والے (نے بیان کئے ہیں)۔

دوسرے جواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ نزول مائدہ کی تاریخ کو (یعنی جس دن آسمان سے کھانا نازل ہوا) اس تاریخ کو (عید بنادیں اس لیے کہ تکون میں ضمیر مائدہ کی طرف راجح ہے پس معنی یہ ہے کہ تکون المائدة سرور الہنا یعنی وہ مائدہ (خوان اور کھانا) ہماں یہ سرور (خوشی) کا باعث ہو جائے۔

(عید کے معنی سرور خوشی کے ہیں، متعارف (مروج) عید کے معنی مراد نہیں (ذ کسی مفسر نے متعارف عید کو مراد لیا ہے)، بلکہ عید کا اطلاق مطلق سرور (خوشی) پر بھی آتا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جہاں کہیں لفظ عید آئے اس سے عید میلاد النبی ہی مراد ہو۔
دوعظ السرور ملحوظہ مجمع الجور ص ۱۵۵ (لاہور)

ایک اور آبست سے استدلال اور اس کا جواب

(عید میلاد النبی کے جواز پر ایک) استدلال اس قصہ سے ہو سکتا ہے کہ جب آیت اللہ عز و جل عَلَيْكُمْ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آتَيْتُمْ نَازِلًا ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنائیتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت عید ہی کے دن نازل ہوئی ہے یعنی یوم جمعہ اور یوم عز و ذی الحجه کی نویں تاریخ، کونازل ہوئی ہے۔ اور ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفیریں فرمایا ہے

مَرْكَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عِرَفَةَ (یعنی یہ آیت عرفہ اور جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے۔)

یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عید بنانے پر انکار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عطا نعمت کی تاریخ کو (یعنی جس تاریخ کو بڑی نعمت حاصل ہوا اس تاریخ کو) عید بنانا جائز ہے۔ اگرچہ یہ استدلال ان (اہل بعثت) کو قیامت تک بھی نہ سوچتا لیکن ہم نے تبرخاً مفتل کیا ہے کہ ان کو اس میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔

اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تجواب یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ انکار نہیں کیا۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ انکار یہاں ہی منقول ہو۔ چنانچہ ہمارے فقہاء نے عرفہ کے دن حاجیوں کی مشاہدت سے جمع ہونے پر انکار فرمایا ہے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسی مقام پر انکار کریں۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھبیت میں بخشی کہا ہے حالانکہ وہ منقول بھی ہے مگر صرف عادت کو عبادت سمجھنے سے انہوں نے یہ انکار فرمایا۔ تو غیر منقول کو قربت سمجھنا تو ان کے نزدیک زیادہ منسکر ہو گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حدیبیہ کے (محضوں) درخت کے اجتماع پر انکار کرنا مشہور ہے۔ پس دونوں حضرات کا منقول ایسے امور پر ثابت ہو گیا۔

دوسرے جواب یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہ تھا۔ یہودی تھا اس کو خاص طور پر انعامی جواب دیا کہ ہمارے یہاں تو پہلے سے عید ہے۔ بلکہ اس جواب سے خود معلوم ہوتا ہے کہ عید منانا جائز نہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں چونکہ تعید (یعنی اپنی طرف سے عید بنانا) جائز نہیں۔ اس لیے ایسے عوارض سے ہم کسی دن کو اپنی طرف سے عید نہیں بناسکتے تھے مگر خدا تعالیٰ

نے پہلے ہی سے اس دن کو عید بنادیا۔

(وعظ السرور، مواعظ میلاد ابنی ص ۱۵۳)

جب آیت الیوم الکملت نازل ہوئی۔ تو ایک یہودی کہنے لگا۔ ہم پر اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ—
دیوانہ ہو گئے ہو۔ ہمیں عید علیحدہ منانے کی کیا ضرورت، یہ تو خود عید کا دن ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو یوم عرفہ (ذی الحجہ کی نویں تاریخ) بھی۔ سب لوگ عرفات میں تھے۔ (الوقت محقق حقوق و فوائض ص ۲۶۶)

ایک حدیث سے استدلال اور اس کا جواب

(عید میلاد ابنی کے جواز پر ایک استدلال وہ) اس حدیث سے کر سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر (سوموار) کے دن روزہ رکھا کسی نے وجہ پوچھی تو یہ ارشاد فرمایا ذلیلک الیوم السذی ولیدت فیلہ یعنی میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔

اس حدیث سے معہلم ہوا کہ یوم ولادت (پیدائش کا دن) عبادت اور قربت کا دن ہے۔ ولادت پر فرجت و سرور قربت (عبادت) ہے لہذا یہ جائز ہے اس کے بھی دو جواب ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم یہ تنیم نہیں کرتے کہ یوم ولادت (یعنی پیدائش کا دن) ہونا روزہ رکھنے کی علت ہے اس لیے کہ دوسری حدیث میں اس کی علت یہ مقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبتر اور پیر کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کی علت عرض اعمال (یعنی اعمال کا پیش ہونا) ہے۔ پس جب یہ علت ہوئی تو ولادت

کا ذکر فرمانا مختص حکمت ہوگا۔ اور حکم کا مدار علت ہوتی ہے (نہ کہ حکمت) اب آپ لوگ جو دیگر قربات (عبادات) کو قیاس کرتے ہو، تو تم نے حکمت کو اصل علت ٹھہرایا۔ حالانکہ حکمت کے ساتھ حکم دائر نہیں ہوتا۔

دوسرے جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حکم کی علت یہی ہے لیکن۔

عملت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عملت جو اپنے مورد کے ساتھ خاص ہو۔ اور ایک وہ جس کا تقدیر دوسری جگہ بھی ہو۔ اگر یہ عملت متعدد ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس دن میں تلاوت قرآن اور غربیوں کو کھانا کھلانا اور دوسری عبادتیں (اممہ مجتہدین سے) منقول نہیں۔

دوسرے پیر کے دن روزہ رکھنے کی طرح جس میں کہ ولادت ہوئی ہے زیست الاول کی بارہ تاریخ بھی ہے۔ لہذا بارہ زیست الاول کو بھی روزہ رکھنا چاہئے۔

نیز نعمتوں تو اور بھی بہت سی ہیں۔ مثلاً ہجرت، فتح مکہ، معراج وغیرہ، آپ نے ان کی علت سے کوئی عبادت کیوں نہیں (تجویز) فرمائی۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ علت اگر ہے تو عام نہیں ہے بلکہ اسی مقام کے ساتھ خاص ہے اور روزہ رکھنے کا اصل مدار وحی (یعنی حکم اُنہی) ہے باقی حکمت کے طور پر ولادت کو ذکر فرمایا، ورنہ دوسری نعمتوں کے دن بھی روزہ رکھنا چاہئے اور اس دن بھی عید منانا چاہئے۔

اور اگر اس پر کہا جائے کہ یوم ولادت کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل ہے تمام نعمتوں کی۔ پس ولادت اور ہجرت وغیرہ میں یہ فرق ہے اس فرق کی وجہ سے یہ تخصیص کی گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حمل اس کی بھی اصل ہے اس کو اصل ٹھہرانا چاہئے (اور زمانہ حمل کو بھی عید منانا چاہئے)۔

بھر جرت اور تجرب یہ ہے کہ یوم ولادت (یعنی خاص پیدائش کے روز) یعنی پیر کے روز تو عید نہ کریں اور تاریخ ولادت (یعنی ۱۲ ربیع الاول) کو عید منائیں۔؟ پیر (سونوار) کے دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت بھی کی ہے اور تاریخ ولادت ۱۲ ربیع الاول میں تو کچھ بھی منقول نہیں۔ پس اس دلیل کا مقام اضافی تھا کہ ہر پیر (سونوار) کو عید کیا کریں دیکھا ایسا کوئی کرتا ہے؟، غرض اس حدیث سے بھی عید میلاد النبی ثابت نہیں ہو سکتی۔

ایک حدیث سے غلط استدلال اور اس کا جواب

اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ (پیر) کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذیل کے لیوڑ ایک دن میں ولادت فیصلہ۔

یعنی یہ دن ہے جس میں پیدا ہوا ہوں۔ توجہ ایک عبادت یعنی روزہ رکھنا یوم ولادت ہونے کی وجہ سے حضور سے ثابت ہے تو ہم اس عبادت پر دوسری عبادتوں کو بھی قیاس کر کے اسی سے ثابت کر سکتے ہیں۔

لیکن ہمیں اس میں کلام ہے کہ روزہ اس لیے رکھا تھا کہ یہ یوم ولادت (پیدائش کا دن) ہے ممکن ہے روزہ اس لیے رکھا ہو کہ وہ پہلے سے فضیلت کا دن ہے اور یوم ولادت ہونا اسی فضیلت سے تجویز کیا گیا ہو۔ اور اس کی ایک دلیل بھی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس روز میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزہ

کی حالت میں پیش ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو شنبہ (پیر کا دن) پہلے سے فضیلت والا ہے اور اسی وجہ سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ جیسے دسویں محرم کے اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی لیکن وہ دن شہادت کی وجہ سے افضل نہیں ہوا بلکہ اس دن کے فضیلت والا ہو نے کی وجہ سے اس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

اور اگر ثابت بھی ہو جائے کہ دو شنبہ میں فضیلت آپ کی پیدائش کی وجہ سے ہے تو زیادہ سے زیادہ تم بھی اسکی قدر کر لو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ (یعنی روزہ رکھ لو اور بس)۔

اور اگر قیاس اتنا ہی عام ہے تو چاہئے کہ مکہ والے ہر دو شنبہ کو حج بھی کر لیا کریں کہ جب روزہ ثابت ہے حج کو بھی اس پر قیاس کر لیں۔ حضرات قیاس کرنا آپ کا کام نہیں، اگر قیاس ایسا استا ہے تو غیر مقلدوں کو ہرگز بُرانہ کہو! غیر مقلد صرف اسی کو نہیں کہتے جو اپنے کو غیر مقلد کہے بلکہ آج شرعی ضرورت کے بغیر جو لوگ قرآن و حدیث سے استخراج کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب غیر مقلدوں ہیں (اور بدعتی بھی ہیں) اور لطف یہ کہ سب سے زیادہ یہی (بدعتی) لوگ غیر مقلدوں کے دشمن ہیں۔ لہ

یوم پیدائش ۱۲ ربیع الاول پیر کے دن روزہ رکھنا

جن امور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہے اس کو حفظ کرنا چاہئے۔ مثلاً آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا اور فرمایا۔

لہ الوقت بمحنة حقوق و فرائض ص ۲۷۴۔

ذِلِّكَ الْيَوْمُ الَّذِي مُولِدَتْ فِيهِ اس لیے ہم کو بھی اس دن روزہ رکھنا (یعنی سوموار کے دن روزہ رکھنا) مستحب ہو سکتا ہے۔

دوسرے پیر کے دن (یعنی سوموار کے دن) حق تعالیٰ کے روپروانہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پس یہ مجموعہ وجہ ہو گی اس حکم کی (یعنی روزہ رکھنے کی) اور اگر منفردًا بھی مانا جائے (یعنی اس وجہ سے روزہ رکھا جائے کہ اس دن آپ کی پیدائش ہوئی تھی) تب بھی صحیح ہے لیکن صرف اسی قدر اجازت ہو گی جتنا کہ ثابت ہے۔

ابوالہب کے قصہ سے استدلال اور اس کا جواب

اہل بدعت کا ایک استدلال اس حدیث سے ہو سکتا ہے جس میں آیا ہے کہ ابوالہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو خوشی میں آکر ایک بارہی آزاد کر دی تھی (اس وجہ سے) اس پر عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولادت پر خوشی جائز اور برکت کا باعث ہے۔

اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ ہم نفس خوشی کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس پر توہر وقت عمل کرتے ہیں گفتگو تو اس خاص طریقہ میں ہے جس کو ایجاد کر کھا ہے دیکھی اس خاص طریقہ کا بھی اس حدیث سے کوئی ثبوت ہوتا ہے؟

لگوں نے یہ روایت تو سن لی ہے کہ ابوالہب کی ایک باندی نے ابوالہب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خردی تو اس نے خوش ہو کر آزاد کر دیا۔ اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ میں کہا ہوں کہ دیکھو!

ایمان و اطاعت کے بغیر وہ خوشی تو کافی نہ ہوئی اور اس خوشی کے بعد بھی بخات
تو ان کو نصیر نہ ہوئی رہے

سوال ۲۳۹۔ ایک بڑے عالم نے عید سیلا دال بنی کے متعلق یہ استدلال کیا ہے
کہ جس لونڈی نے ابو ہب جیسے معاندر سرکش کو آپ کی ولادت باسعادت کا
مژده سنایا تھا اسے ابو ہب نے فرماتے سے آزاد کر دیا۔ اس کے صلے
میں یوم ولادت یعنی ہر دو شنبہ کو اس پر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے
جب ایسے سرکش اور باغی کو اس سرت کا یہ صلہ ملا، تو ہم گنہ گاراں ملت کو
بھی اس دن خوشی منانے میں ضرور اجر عظیم ملے گا۔

سوال یہ ہے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہے تو اس
کا کیجواب ہے؟

الجواب۔ جواب ظاہر ہے، اول توهہ فتحی و مناجاتی (یعنی اچانک اور غیر
اختیاری) خوشی تھی۔ اس پر قصدی والکتابی و اہتمامی خوشی (یعنی ایسی خوشی
جو قصد و ارادہ اور اپنے اختیار سے بتکلف و اہتمام اختیار کی جائے،
ایسی خوشی کا (غیر اختیاری خوشی پر) قیاس کیسا ہے (یہ تو قیاس مع الغارق
ہے) ہم کو تو اس خوشی کا موقع ہی نہیں مل سکتے۔

ہاں اس قیاس سے قطع نظر ہماری یہ خوشی بھی جائز ہوتی اگر دلائل
شرعیہ نکرات کو منع نہ کرتے، اور ظاہر ہے کہ مباح و غیر مباح کا مجموعہ
غیر مباح (یعنی ناجائز ہوتا ہے) ہے

عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ ولادت سے استدلال اور

اس کا جواب

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ مریم میں صحیح علیہ السلام اور عیسیٰ — علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنا بھی خاص اہتمام کے قابل ہے پس اس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و ولادت کو بھی قیاس کرتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے حَفِظْتَ شَيْئًا وَخَابَتْ عَنْكَ أَسْتُياءُ۔

آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ان حضرات کی ولادت کا قصہ اہتمام سے بیان فرمایا ہے مگر یہ نہیں دیکھا کر کیوں اور کس حیثیت سے ذکر فرمایا۔ ان کے ولادت کے قصہ کو اہتمام سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی ولادت ایک عجیب طریقہ سے خرق عادت کے طور پر ہوئی ہے۔ صحیح علیہ السلام کے ماں باں تو بوڑھے بہت تھے کاظم ہری اسباب کے اعتبار سے ان میں تو اور وتناسل کی صلاحیت ہی نہ تھی۔

چنانچہ ارشاد ہے وَأَصْلَحَنَا لَهُ زَوْجَهُ اس لیے ان کی ولادت عجیب تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کی — ولادت اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ پس حق تعالیٰ نے ان دونوں قصوں سے قدرت اور توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

یہ وجہ ہے ان قصوں کے اہتمام سے ذکر کرنے کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ عادت کے موافق ہوئی (اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں) । مجعع ابو حورا ام واعظ میلاد ابنی وعظ السرور م ۲۵ مطبوعہ لاہور)

مصلحت کے بہانے سے بدعت کا ارتکاب جائز نہیں

یہ مصلحت کہ اس مجلس کی وجہ سے جاہل عوام انس مہنیات (یعنی ناجائز مجلسوں) سے رکتے ہیں۔ سو اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ ایک معصیت کو اس لیے اختیار کیا جائے تاکہ دوسرے معاصی سے حفاظت رہے تو اس مصلحت سے بدعت کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہو سکتے۔

ترک معصیت (یعنی بدعت اور ناجائز کام سے بچانے) کے لیے معصیت (یعنی غلط طریقہ کو) اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ شروع ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ مثلاً نظر بد کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ۔ جی بھر کے دیکھ لیا جائے بلکہ اس کا علاج غض بصر (یعنی نگاہوں کو پیچی کر لینا) ہے گو سخت مشقت ہوتے۔

دوسرے اگر عوام کے مذاق کی ایسی ہی رعایت کی جائے پھر تو داہل باطل کی جتنی بری رسماں (اور غلط طریقے) ہیں ہر ایک کے مقابل رسماں ہیں۔ ہر ایک کے مقابل وہی رسماں اصلاح کر کے منفرد کرنا جائز ہوگا۔ پھر تو تعزیریہ اور عکم کی بھی کسی قدر اصلاح کر کے اجازت ہونا چاہئے۔ اور مثلاً اصلاح یہ ہو سکتی ہے کہ تعزیریہ کی پرستش اور اس پر چڑھا دا اور معاف (گانے باجے) وغیرہ نہ ہوں۔ صرف مکان کی تصویر ہو، اس کے ساتھ مبارح اشعار ہوں اور مبارح دُف ہوں۔ (تو کی ان سب امور کی بھی اجازت ہوگی؛ اسی طرح تمام رسماں میں ایسا ہی کیا جاسکت

ہے پھر تو ہر بدعت اور ہر رسم کی کچھ ترمیم کے بعد اجازت ہو جائے گی۔^۱
 ایک صاحب علم کی بابت فرمایا کہ وہ جون پور میں ہر چھٹی خصوصاً محرم میں —
 دسویں کیا کرتے تھے اور اس کی حکمت یہ بتلاتے تھے کہ میں اس لیے کرتا ہوں،
 تاکہ لوگ شیعوں کی مجلسیں میں نہ جائیں۔

ایک غیر مقلد مولوی صاحب نے بڑا چھا جواب دیا کہ اگر ایسا ہی ہے — تو
 ہندووں کی ہولی اور دیوالی بھی اسی نیت سے کرنی چاہئے تاکہ لوگ ان کے
 مجموع میں نہ جائیں۔^۲

ایک عالم صاحب نے محرم میں دسویں ایجاد کی تھی جس میں وہ شہادت نامہ
 پڑھواتے تھے۔ نیت تو ان کی یہ تھی کہ لوگ شیعوں کی مجلسوں میں شرکیں نہ
 ہوں۔ لیکن ان کا مقصود بھی حاصل نہ ہوا، لوگ اس سے فارغ ہو کر شیعوں کی
 مجلسوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میاں چلو! ان کمختوں کے یہاں بھی دیکھو
 آئیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بیس بدعت کی مصلحتیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ مصلحتیں
 واقعی مصلحتیں ہیں تو خدا تعالیٰ نے ان مصلحتوں کی رعایت نہ کرنے کے باوجود
 یہ کیوں فرمادیا تھا کہ آکیوم آکمَدْتُ لِكُمْ دِيَنَكُمْ دُكَمْ دِيَنَكُمْ کہ میں نے دین کو مکمل
 کر دیا ہے۔^۳

بَابٌ

شوکتِ اسلام کا شہر

عِیْدِ میلاد النبی بدعـت اور شرک فـی النبوـة ہے

اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ اس میں اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی
مثال ایسی ہے کہ کسی نے تعریفات ہند (ملک کی قانونی سزا میں) چھاپتے وقت دو گناہ کر دیا
کہ جس جرم میں چھ ہمینے کی قید تھی وہاں ایک برس لکھ دیا اور باز پرس ہونے پر
یہ جواب دے دیا کہ کیا حرج ہے اس میں گورنمنٹ کا رعب زیادہ ہو گا اور اس
سے سلطنت میں استحکام ہو گا۔

اب تبلیسیء اس نے جو سزاوں میں اضافہ کیا وہ مقبول ہو گا یا نہیں؟ مردود
ہو گا۔ بلکہ اس شخص پر مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ کرتم اپنے کو سلطنت (و حکومت
میں) اشریک (اور اپنے کو قانون ساز) سمجھتے ہو، خود قانون وضع کرتے ہو۔

اب تبلیسیء کہ اگر کوئی شخص احکام شریعت میں کچھ اضافہ کرے یا بدل
دے تو وہ مجرم ہے یا نہیں؟

صاحبوا (ذرا سمجھ سے کام لو، غور تو کرو) یہ تو شرک فـی النبوـة ہے (یعنی

بُوت میں اپنے کوشش کرنا ہے) کیوں کہ اسی مصلحتوں کا دیکھنا بھی کام ہے
یہ وجہ ہے اس کے جرم ہونے کی۔ اب تو قانونی مثال سے سمجھ میں آگئی ہو گا
کہ بدعت سے اس لیے منع کیا جانا ہے کہ یہ شرک فی النبوة ہے۔ شیطان
بدعت سے بہت خوش ہوتا ہے کیوں کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے
اس کو گناہ را اور غلط توجیح کرتا ہے مگر بدعت کو تو دین سمجھ کر کرتا ہے اور عمر بھر متلا
رہتا ہے۔

اسلام کی شوکت اسلامی احکام سے ہے

حضرات! اسلام کی تزویہ شوکت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور ہماں لوگوں نے نیا باس بدلنے کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ فَهُنَّ قَوْمٌ أَعْزَنَ اللَّهَ بِإِلَاهَ لَهُمْ۔

ہم وہ قوم ہیں کہ خدا نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے باس سے نہیں۔
صاحبو! اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہماری عزت سب کے نزدیک ہے جسے
صحابہؓ کے طرز کو دیکھئے مدینہ کی سادی مسجد میں ٹوٹے ہوئے بوریوں
پر بیٹھے ہیں اور حوصلہ اس قدر بلند ہے کہ روم و فارس کی سلطنت کی قسم
کے فیصلے کا مشورہ کر رہے ہیں یہ یہ

حضرت خالدہاں ارمی کی مجلس میں تشریف لے گئے وہاں رشیم کا فرش
بچھا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے اس کو ہٹا دیا۔ ہماں نے کہا، اے غالدیں نے
تہاری عزت کی بھتی سیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے

ہامان! تیرے فرش سے خدا کا فرش اچھا ہے، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
رثیم کے استعمال کرنے سے منع فرمادیا ہے تو کیا اس رثیم کے ہنادینے سے
ان کی شوکت کم ہو گئی۔؟ یا اور بڑھی۔؟

مسلمانوں کی عزت یہی ہے کہ ہر موقع پر کہہ دیں کہ ہم کو فلاں کام سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا ہے۔ مگر آج لوگ اسلام کے احکام
ظاہر کرنے کو ذلت سمجھتے ہیں۔ لہ

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحبؒ معمولی وضع میں رہتے تھے مگر گورنر
صاحب و عیزہ ان سے سلام کرنے آتے تھے۔ (النور ص ۲۳)

اسلام کو عارضی شوکتوں کی ضرورت نہیں

اسلام کو ان عارضی شوکتوں کی ضرورت نہیں۔

عید میلاد النبی ایک بادشاہ کی ایجاد ہے اس نے (اسلامی) شوکت و غلبہ
کو ظاہر کرنے کے لیے) عیسائیوں کے مقابلہ میں ایجاد کیا تھا۔ کہ جیسے ان کے
یہاں بڑے دن کی خوشی ہوتی ہے اور رونق ہوتی ہے اسی طرح ہم بھی
کریں گے۔

اصل تو یہ ہے کہ اس بادشاہ کی یہ رائے ہی غلط تھی اسلام کو ان عارضی
شوکتوں کی ضرورت نہیں (ذیکریا) مٹھائیاں تقسیم کر دینے سے یا چند آدمیوں
کے جمع ہو جانے سے (غیر قوموں کا) مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لہ

اے حضرات غیر قومیں جن کے سامنے آپ یہ (ظاہری) شان و شوکت

سچاوت جلسہ جلسوس) ظاہر کر رہے ہیں۔ ان میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے برابر دولت آپ کے پاس کہاں ہے؟ اگر وہ بھی صند کر لیں تو یقیناً آپ ان کے مقابلہ میں شرمند ہوں گے۔ اس لیے آپ توجہ ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کیجیئے اور کفتار کا یہ نفاذی مقابلہ چھوڑ دیجیئے۔ ۱۷

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وقت میں بھی شوکتِ اسلام کی ضرورت تھی بلکہ اس وقت سے زیادہ ضرورت تھی مگر ان حضرات نے اس پر عمل نہیں کیا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ بالکل امر مستحدث ہے اور جدید ہے (یعنی بدعت ہے شریعت میں) جس کی کچھ اصل نہیں۔ اور بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ کر کیا جائے۔ ۱۸

اسلام کی سادگی ہی اسلام کا کمال ہے

یہود اپنی زنتیں دکھلائیں، نصاری (عیسائی)، اپنی زنتیں دکھلائیں، ہندو، اپنی زنتیں دکھلائیں اور ایک مسلمان پھٹا ہوا کرتہ پہن کر نکلے گا تو خدا کی قسم سب کی رونقون کومات کر دے گا۔

اے صاحبِ خدا نے آپ کو وہ حسن دیا ہے کہ آپ کو زینت کی حاجت ہی نہیں۔ اسلامی جلسوں کے لیے یہ حسن اور شرف کیا کم ہے وہ اسلام کی فاطحی تھی نسبت سے منسوب ہے۔

اسلامی مجلس تو ایسی ہونا چاہئے کہ دور سے دیکھ کر خبر ہو جائے کہ یہ

اسلامی مجلس ہے، یہ کسی ناچ رنگ کی محفل یا ٹھیکر کا اسٹیج نہیں ہے، باہر سے اسلامی مجلس بالکل سادہ ہو، اندر پہنچو تو صاحبہ کا بگ جھلکتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ بازاری عورتوں کی طرح گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوں، لباس نہایت پرستکلف اور ایک ایک چیز اور ہر ہر ادا سے ریسیوں جیسے تکبر نمایاں ہو، اور حقیقت کا پتہ نہیں۔ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ زیرب وزینت و شخص کرتا ہے جس کے پاس مال ہے کمال نہیں ورنہ یہ بجائے مال کے اپنے کمال کا اظہار کرتا۔ اور اب کمال نہ ہونے سے مال کا اظہار کر رہا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں اگر قلب میں حقیقت ہے تو ظاہری آرائش سے نفرت ہو گی اور اگر حقیقت سے کوئے ہیں تو ظاہری شان و شوکت سے اس کی لیپ پوت کریں گے یہ

اسلاف کا طرز عمل

سلف کا طرز یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے نصاریٰ (یوسائیوں) کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ آپ پہنچنے ہوئے پڑے پہنچنے ہوئے تھے، عرض کیا گیا کہ لباس بدل یبحثے تاکہ کفار کی نظر میں عزت ہو۔ فرمایا نحن قوم اعترفت اللہ ببالاسلام هم وہ قوم ہیں کہ خدا نے ہیں اسلام سے عزت دی لباس سے نہیں دی۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچ تو پھر رب نے اصرار کیا کہ جوڑا اور سواری بدل یبحثے۔ آپ نے مسلمانوں کا دل توڑنا گوارہ نہ کیا اور منظور فرمایا۔ ایک مانگے کا گھوڑا اور مانگے کا جوڑا

لہ اصلاح الیتامی ملحوظ حقوق و فرائض م ۲۶۲

لایا گیا۔ یہ امیر المؤمنین ہیں جن کے پاس ایک اچھا جوڑا بھی نہ نکلا۔

اللہ اکبر! کیا سادگی تھی۔ خیر گھوڑے پر سوار ہو کر دو قدم چلے ہوں گے کہ گھوڑا فخر اور ناز سے محل محل کر چلنے لگا۔ آپ اسے روک کر فوڑا اتھر پڑے اور فرمایا کہ تمہارا بھائی عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، کیوں کہ گھوڑے پر بیٹھ کرو وہ دل ہی نہیں رہتا۔ چنانچہ پھر اپنی پسلی ہی سادہ حالت میں پیش کیے گئے۔ نصاری نے جب آپ کو دیکھا فوراً دروازہ کھول دیا۔

اللہ اکبر! یہ تھی خلوص اور سادگی کی برکت، مسلمانوں کو اس حالت سے جھیپ نہ ہونی چاہئے۔

حضرات یہ نمونہ تھا کام کرنے والوں کا یہ فتشن اور یہ وضع اور یہ شان شوکت ان حضرات میں کھاں تھی یہ۔

بَابٌ

عَظِيمَتْ مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّ مُخْلُوقٍ مِّنْ حَضُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّ فَضْلٍ سَبَّ بِرْ تَرَهِينَ

یہ نئی ایسا اجتماعی اور ضروری مسلمات میں سے ہے جس پر اتنا لال کی بھی حاجت نہیں (اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں) مگر تبرگا کچھ روایات کوئی جاتی ہیں۔

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں زیادہ مکرم ہوں۔ (ترمذی، دار می، مشکوہ)

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کی رات میں برّاق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے وقت شو خی کرنے لگا۔ جریل علیات لام نے فرمایا کیا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تجوہ پر تو ایسا کوئی شخص سوار ہی نہیں ہوا ہے جو ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو۔ پس وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ (سنن ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء، پر فضیلت دی، اور
آسمان والوں یعنی فرشتوں پر بھی اور قرآن مجید سے اس پر استدلال کیا۔
ان سب روایات سے آپ کا تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونا ثابت
ہوتا ہے جو تعالیٰ کے ارشاد سے بھی اور خود آپ کے ارشاد سے بھی اور ملائکہ کے
ارشاد سے بھی یہ

زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے متصل

سے عرش الہی سے افضل ہے

محققین علماء نے تصریح کی ہے کہ وہ بقعد (یعنی زمین کا وہ حصہ جس سے
جسم مبارک (صلی اللہ علیہ وسلم) مس کیسے ہوئے ہے، عرش سے بھی افضل ہے
کیوں کہ عرش پر معاذ اللہ حق تعالیٰ شانہ بیٹھنے ہوئے ہیں، میں اگر بیٹھنے ہوئے
ہوتے تو بے شک وہ جگہ سب سے افضل ہوتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ مکان
سے پاک ہیں اس لیے عرش کو مستقر خداوندی نہیں کہا جاسکتا۔ اس سے یہ
بھی سمجھ میں آگیا ہو گا کہ استوا، علی العرش کے معنی استقرار کے نہیں ہو سکتے
کیوں کہ بیٹھنے کی جگہ وہ بھی ہو سکتی ہے جو بیٹھنے والے سے زیادہ یا کم سے کم
اس کی برابر تھوڑا۔ مثلاً اگر ہم سخت یا کسری پر بیٹھیں اور اس کے اوپر ایک
ترنکا پڑا ہوا ہو، تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم تنکے پر مستقر ہوئے کیوں کہ اس کو ہم
سے کچھ بھی نسبت نہیں، اس لیئے وہ ہمارا مکان نہیں بن سکتا۔ پس اسی طرح

عرش بھی خدا تعالیٰ کامکان نہیں بن سکتا کیوں کہ اس کو حق تعالیٰ سے وہ نسبت بھی نہیں جو رائی کے دانہ کو ہم سے ہے۔ اسی دلیل سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ استوار علی العرش کے معنی بیٹھنے کے ہرگز یہاں نہیں ہو سکتے۔ (جب یہ ہے تو عرش کو حق تعالیٰ کے استقرار کی وجہ سے (دوسری جگہوں پر فضیلت نہیں کر لبقۂ شریف (روضۂ مبارک) سے وہ افضل ہوتا۔ بلکہ (عرش) کو صرف اس وجہ سے دوسری جگہوں پر فضیلت ہے کہ وہ ایک — حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون تجلی گاہ الہی ہو گا۔ پس اس حیثیت کے اثر سے بھی لبقۂ شریف (روضۂ مبارک) خالی نہ رہا۔ اس لیے ہر طرح وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، سب سے زیادہ اشرف ہوئی۔ کیوں کہ — اس جگہ بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی تجلیات سب سے زیادہ فاض ہوتی ہیں۔ لہ

ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ
جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخلوق کے برابر قرار دے
وہ کافر ہے ملعون ہے

ہمارا اور تمام مشائخ کا عقیدہ ہے کہ بے شک سیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔

جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور نبیکے یا پاگل یا کسی مخلوق کے علم کو برابر قرار دے، یا یہ کہے کہ نعوذ بالله ابلیس لعین (مردود) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم ہے تو ایسا شخص کافر و ملعون ہے لعنة اللہ علیہ (ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ لے

[حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بشر پر قیاس کر کے]
 [تنقیص کرنا کفر ہے اور شان رسالت و عبادت سے بڑھا دینا بھی کفر ہے]
 جس طرح کمالات رسالت نعوذ بالله آپ کی تنقیص کر کے دوسرے بشر پر آپ کو قیاس کرنا کھریا بدعت ہے اسی طرح کمالات عبادت سے آپ کو مبتدا وز قرار دے کر (یعنی آگے بڑھا کر) حق تعالیٰ کے خواص سے منصف جانا، یا کسی ایسے امر کا قائل ہونا شریعت میں جس کی نفی کی گئی ہے وہ بھی شرک یا معصیت ہے۔ لے

**آپ کا فرمان ہے کہ مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ
میری تعریف میں غلوٹ کرو**

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مجھ کو اتنا مت بڑھاؤ و جیسا فارمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا کہ الوہیت کے خواص کو ان کے لیے ثابت کرنے لگے (میں تو اللہ کا بندہ ہوں سو تم مجھ کو اس کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو (الوہیت کو ثابت نہ کرو)۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مناز کے اندر رہنے والے جانے کے متعلق) فرمایا کہ میں بشر ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ سو جب میں بھول جاؤں مجھ کو یاد نہ لایا کرو۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں بشر ہوں، مجھ کو بھی اور بشر کی طرح عرضہ آجاتا ہے۔ سو جو کسی مؤمن مرد یا مومن عورت پر میں عرضہ میں بد دعا کروں، تو آپ اس بد دعا کو اس شخص کے لیے تزکیہ اور تطہیر کر دیجئے۔
(روایت کیا اس کو احمد نے کذا فی الرحمۃ المہداۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ کے محبوب بندہ ہیں، آپ کو بندہ ہی سمجھو، خدا نے بناؤ۔ مگر ایسے بندہ ہیں جیسے ایک بزرگ کا مقولہ ہے:

”بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ مِنْ كَالْيَأْقُوتِ بَيْنَ الْحَجَرَيْنَ“

یعنی ہیں تو بشر مگر ایسے بشر ہیں جیسے پتھروں ہیں یا قوت کروہ بھی پتھر ہی ہے مگر سب سے ممتاز۔ (المورود الفتحی ملحق مواعظ میلاد النبی ص ۳۵۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شفقت

۱:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع الکمالات ہونا تو مسلم ہے، آپ تو تمام کمالات انبیاء، علیہم السلام کے جامع ہیں پھر کمالات اولیاء کے جامع کیوں نہ ہوں گے۔ (وعظ اضار الحجۃ ملحق تسلیم و رضا ص ۸۴)

۔۲ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص افضل تو کیا ہوتا کوئی برابر بھی نہیں ہے آپ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقبول — (و محبوب

بند) ہیں۔ (وعظ قطع التمنی ملحقة تسلیم و رضا ص ۷۹)

۔۳ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی شفیق نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ ان اپنا شفیق ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولین کے ساتھ ان کے نفوس سے بھی زیادہ (شفقت و ہمدردی) کا تعلق ہے
(وعظ وحدۃ الحجۃ ملحقة تسلیم و رضا ص ۲۲۲)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امرتکے ساتھ اخوتہ و ہمدردی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (بعض حیثیت سے) میرے ساتھ زیادہ مجید، کھنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے کہ ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ تمام اہل (یعنی اپنے گھر والوں، بیوی، بچوں) کے عومن مجوہ کو دیکھے۔

(روایت کیا اس کو مسلم نے، کذافی المشکوہ)

فائدة:- یعنی اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اگر سب اہل و مال سے دست بردار ہو، تو (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی) زیارت میر ہو جائے گی۔ تو وہ اس پر دل و جان سے راضی ہو گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے دوست ہو، اور میسر بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے (یعنی بعد میں پیدا ہوں گے)۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے کذافی المشکلاۃ)

فائدہ۔ چونکہ دوست کے ساتھ مجت کی ابتدا، صحبت ہی سے (یعنی ساتھ رہنے سے) ہوتی ہے اور بھائی سے مجت کا ہونا رویت و صحبت (یعنی دیکھنے اور ساتھ رہنے سے) مقید نہیں (بغیر دیکھنے بھی بھائی سے مجت ہوتی ہے) پس صحابہ کو دوست اور بعد میں آئی والوں کو بھائی اس وجہ سے فرمایا کہ صحابہ کی مجت کا وقوع رویت (یعنی دیکھنے) سے ہوا اور بعد والوں کی مجت کا وقوع بے دیکھے ہوا۔ اور اس سے صحابہ پر غیر صحابہ کی فضیلت مجت میں لازم نہیں آتی کیونکہ یقیناً صحابہ کی ایسی استعداد تھی کہ اگر وہ حسنور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے، جب بھی مجت میں ہم سے زیادہ ہوتے یہ

باب

حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم

محبت کے تین اسباب

کسی سے محبت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک محبوب کا کمال جیسے حالم سے محبت ہوتی ہے، بہادر شخص سے محبت ہوتی ہے۔ دوسرے کر جمال جیسے کسی حسین سے محبت ہوتی ہے۔ تیسرا نوال یعنی عطا و احسان جیسے اپنے منعم و مرتبی سے محبت ہوتی ہے۔ جانب بنی کریم مسلم کی ذات مقدسہ میں تینوں وصف ملی سبیل الکمال یعنی پورے طور سے (جمع میں) — تو خود اس کا طبعی مقضی یہ ہے کہ اگر شرعی حکم نہ ہوتا تب بھی آپ کے ساتھ امت کو اعلیٰ درجہ کی محبت ہونی چاہئے اور پھر جب کہ شرعی شخص بھی اس کے وجوب کے موجود ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مؤمن نہ ہو گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تسامم آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(بخاری، مسلم)

یعنی اگر میری صفائی اور رسول کی صفائی میں مراحت ہو تو جس کو ترجیح دی

جائے اسی کے زیادہ محبوب ہونے کی یہ علامت ہو گی یہ

حضرت اللہ علیہ وسلم کے تین حقوق میں

خصوص (قرآن و حدیث) میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور ادائے حق کے معنی یہ ہیں کہ تمام حقوق ادا کیئے جائیں۔ اگر ایک حق ادا کیا اور ایک نہ کیا۔ اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔

ضرورت اس کی ہے کہ حضرت اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچانے جائیں حضرت اللہ علیہ وسلم کے تین حقوق ہیں۔ ایک حق اطاعت، ایک حق محبت ایک حق عظمت یہ

لوگوں کی تین قسمیں

اس وقت تین قسم کے لوگ ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اور وہ حضرت اللہ علیہ وسلم کے زبانی فضائل بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، نہ اطاعت سے بحث ہے، نہ ان کے دل میں حقیقی محبت ہے، نہ تعظیم ہے ————— زیادہ حصہ ایسے ہی لوگوں کا ہے کہ جو صرف زبانی محبت کو کافی سمجھتے ہیں، نہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خبر، نہ حقیقی محبت کی خبر بس اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ حضرت اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرایا جائے۔ باقی جتنا اہتمام ذکر کا

ہوتا ہے، اطاعت کا نہیں ہوتا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر اطاعت کرتے تو عبادوں سے رجوع کرتے، ان سے دین کے مسائل پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا طریقہ دریافت کرتے، ان سے احکام کی تحقیق کرتے۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں۔

سو زیادہ تر لوگ اسی قسم کے ہیں۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس غلطی کو دور کیا جائے۔ لے

حقوق کی تفصیل

علم کی کمی سے مختلف قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایک حق کو اور بعض دوسرے کو اور بعض لوگ تیسرا حق کو ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ ادا نئے حق کے معنی پر ہیں کہ تمام حقوق کی رعایت کی جائے۔

مثلاً باپ کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب بھی کرے، اطاعت بھی کرے، اس کے لیے دعا بھی کرے، اس کی تعظیم بھی کرے۔ اگر اس کو ضرورت ہو تو خدمت بھی کرے (جان سے بھی، مال سے بھی)۔

اوپر مشتمل بادشاہ کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب کرے، اس کے احکام کو مانے اس کی عظمت دل میں ہو، اس کی اطاعت کرے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی تعظیم نہ کرے یا احکام کو نمانے تو اس نے بادشاہ کا حق ادا نہیں کی۔ مثلاً بادشاہ کی تعظیم و تکریم تو اس طرح کرتا ہے کہ پچھلے پاؤں ہٹتا ہے دبادشاہ

لہ ذکر الرسول۔ البیان ماما۔

کی طرف پڑھی بھی نہیں کرتا، مگر قانون کے خلاف کرتا ہے، قانون کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں زبان سے بادشاہ کی مدح و شنا (یعنی تعریف) خوب کرتا ہے اور اس کے متعلق مختلف جلسوں میں خوب تقریریں کرتا ہے اور اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میں نے زدیک ادائے حق یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اس عذر کو قبول نہ کرے گا بلکہ بادشاہ کا رعایا پر سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ یہ توا دائرے حقوق کی حقیقت ہے۔

اس کے بعد سمجھئے کہ حقوق میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کا اور حق ہے، ماں کا اور، بیوی کا اور، بیٹے کا اور، بہن کا اور، رسول کا اور، یہ قاعدہ سب میں مشترک ہے اور ادائے حقوق اسی وقت کہیں گے جب سب حقوق ادائے کئے جائیں۔ مثلاً باپ کا حق یہ تھا کہ اس کی تعظیم بجا لاتا۔ اطاعت کرتا۔ اس کی خدمت کرتا۔ اس کی تعریف کرتا۔ دعا کرتا۔ ادب سے لگنٹو کرنا۔

مگر بیٹے کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کی تعظیم کرتا ہے، نہ اطاعت کرتا ہے نہ دعا کرتا ہے، ہاں مجمع میں باپ کی تعریف خوب کرتا ہے تو کیا اس کو کہا جائے گا۔ کہ وہ باپ کا حق ادا کرتا ہے؟ اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا اٹھ کر پانی دے، تو جواب دیتا ہے کہ میں نے آپ کی بہت سی تعریفیں کر دی ہیں اور اب مجھے — اطاعت کی ضرورت نہیں، میں خدمت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی عقلمند آدمی اس کو ادائے حق نہ کہے گا۔ اسی طرح اور حقوق میں بھی سمجھو لیجئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض حق ادا کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں تو ان کا ادا کرنے والا وہی

شخص سمجھا جائے گا جو سب حقوق ادا کرے اور کسی شخص کے اس طرز کو کافی نہ

سمجھا جائے گا کہ ایک حق کو تواڑا کرے اور باقی کو چھوڑ دے۔^{۱۷}

محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے

محبت بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق ہے اور اس کا مقتضی یہ بھی ضرور ہے کہ ذکر مبارک کی جائے مگر اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اطاعت کی جائے۔ تعظیم بھی کی جائے۔ چنانچہ دنیا میں بھی جس سے محبت اور خلوص ہوتا ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے، دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے، خدا اس کو خبر ہو یا نہ ہو (کیوں کہ) محبت سے غرض یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا دل ٹھٹڈا ہو اسے راحت ہو، اور یہ محبت کیسی ہے کہ اپنے محبوب کو تکلیف پہنچانی جائے۔

سب جلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ کوئی شراب پیتا ہو، رشوٹ لیتا ہو، فشق فخور میں مبتلا ہو۔ سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جاتی ہے۔

(ظاہر ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی) یہ محبت کیسی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تکلیف پہنچانی جاری ہے۔

یہ تقریر تو اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق ہیں، عظمت، اطاعت، محبت۔ لیکن اگر کوئی شخص تینوں حق کو جدا نہ سمجھے بلکہ

صرف ایک محبت ہی کو سمجھے۔ تب بھی میں کہتا ہوں کہ صرف محبت ہی ایک ایسا حق ہے جو دوسرے حقوق (یعنی عظمت اور اطاعت) کو متلزم ہے یعنی سچی محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی اطاء۔ بی ہوگی۔ مگر لوگوں نے صرف اتنا یاد کر لیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔^{۱۷}

تبرکات کی زیارت

تبرکات کی زیارت جس میں اکثر عوام کا مجمع زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔

۱۔ بعض جگہ تو تبرکات ہی بے اصل ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرنا کس قدر وعید (اور گناہ) کا ذریعہ ہے، بلکہ بعض تبرکات کے غلط ہونے پر دلیل عقلی یا انقلی شہادت دیتی ہے چنانچہ قدم شریف کے فہر کا اکثر محدثین نے انکار کیا ہے البتہ جہاں کوئی مکذب (یعنی جھٹلانے والی) دلیل نہ ہو تو پھر ہم کو تکذیب (یعنی اس کو جھوٹا اور غلط کہنے) کی حاجت نہیں۔ خصوصاً جہاں قرآن سے صدق غالب ہو وہ طٹ تبرک ہے گویقینا نہ سہی کیوں کریقین کے دلائل مفقود ہیں۔

۲۔ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ زیارت کرانے پر معاوضہ لیا جاتا ہے۔ فہماں نے تصریح کی ہے کہ ایسے امور پر معاوضہ لینا رشوت اور

^{۱۷} ذکر الرسول ملحقۃ البیان

حرام ہے۔
۲۔ زیارت کے وقت اکثر مردوں عورتوں کا اخلاط (اور اجتماع) جسم

کے لحاظ سے یا نظر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے۔

۳۔ بعض تبرکات کی زیارت کرانے کے وقت عوام کے مجمع میں۔

اشعار نداہیہ پڑھے جاتے ہیں اور ہدیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی سی بنائی جاتی ہے جس سے عوام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے

رونق افزوزی کا وہم ہوتا ہے۔

۴۔ اس کا اہتمام فرائض و واجبات میں بلانے (کی طرح بلکہ

اس سے بھی) زیادہ ہوتا ہے اور جو محتاط رہے اس کو ملامت کا

نشانہ بناتے ہیں، پر تک حدود سے تقدی (اور زیادتی) ہے۔

مناسب یہ ہے کہ اس ہدیت سے زیارت نہ کی جائے بلکہ خلوت

میں (یعنی تہائی میں) رسوم کی پابندی کے بغیر زیارت سے مشرف

ہو جائے۔

اوکبھی کبھی وقت کی تعین کے بغیر بطور خدمت کے تبرکات کے

خادم کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا کرے اس کا مضائقہ نہیں یہ

باستی

ایک پیشی و پی پی مفہوم کا مام

اکابر علماء کے نظریہ

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مفتول العالی

فاضل عزیزی مولوی محمد زید مظاہری ندوی مدرس جامعہ عسکریہ ہنوزار ایک اللہ جیاتہ و فی افداۃ نے بوضرست حکیم الامم کے افادات و ارشادات اور تحقیقات و نظریات کو مختلف عنوانوں اور موضوعات کے تحت اس طرح جمع کر رہے ہیں کہ حضتر کے علوم و افادات کا ایک دائرۃ المعرف (انسانیکوپیڈیا) آتیار ہوتا جائے ہے ان خصوصیات اور افادات کی بناء پر عزیزگرامی قدر مولوی محمد زید مظاہری ندوی نے صرف تھاؤی دیوبندی حلقة کی طرف سے بلکہ تمام علم الطبع اور صحیح الفکر حق شناسوں اور قدروں اول حیطوف سے بھی شکریہ اور دعا کے متعلق ہیں

ابوالحسن علی ندوی

(دائرہ شاہ عبداللہ تحریری نئے بیلی)

فارف باللہ حضرت اقدس مولانا سید حصہ لیل الحمد ضبا ندوی (جامعہ سیرہ ہنوزار بازہ)

حکیم الامم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے علوم و معارف کے سلسلہ میں مختلف عنوان سے ہندو یاں میں کام اور رہا ہے، لیکن بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کا نے محض اپنے فضل سے عزیزی مولوی مفتون محمد زید مسکن مدرس جامعہ عسکریہ ہنوزار کو خس نرالے انداز سے کام کی توفیق عطا فرمائی اس جامیعت کے ساتھ ابھی تک کام ہنسیں ہوا تھا اس سلسلہ کی دو درجن سے زائد ان کی تصانیف ہیں بارگاہ ایزوی میں وقار ہے کہ اس کو قبولیت تام عطا فرماتے اور مزید توفیق نصیب فرماتے۔

اعترضتیق احمد غفرلہ احمد جامعہ سیرہ ہنوزار بازہ (یوپی)

حضرت مولانا برهان الدین سنبلی اسلامیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

ذائق یہ ہے کہ آپ کی تجھے اس قدر مفہوم بلکہ نہادت اہم کام کی طرف منہوں ہوئی ہے کہ اس کیلئے خداوندی رہنمائی اور ذکارت نماز کے بغیر آمادگی نہیں ہو سکتی تھی یعنی محض اللہ کا فضل ہے ہو سکت ہے کہ ناؤاقف کی نظر میں یہ کام اتنا حکم نہ ہو جتنا فی نسبہ ہے لیکن حقیقتہ تھی بڑے حقیقی و علی کام سے کم اہم نہیں۔
برہان الدین سنبلی

فہرست مطبوعات

ادارہ افادات اسلامیہ ہمتو ربانڈہ (لیوپی) برائے ۱۹۹۶ء
 ترتیب: مفتی محمد زید مظاہری ندوی
 افادات: حکیم الائج حضرت مولانا شرف علی تھانوی

نام کتاب	قیمت روپے	نام کتاب	قیمت روپے	نام کتاب	قیمت روپے
العلم والعلماء	۴۰	مروجہ سیاست کے شرعی احکام	۱۶	دعویٰ تسلیغ کے اصول احکام	۴۰
اعلامی شادی مکمل	۹۰	غیر اسلامی حکومت کے شرعی احکام	۱۷	اسلامی حکومت و ستور علکت	۳۰
احکام الدعا والوسیله	۳۰	اسٹاد و شاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت کے طریقے	۱۹	اصلاح خواتین	۵۰
احکام پر عقل نقل کی روشنی میں	۳۰	علوم و فنون اور نصاب تعلیم	۲۰	احکام کی اصلاح کے طریقے	۲۵
تریبت اولاد	۲۵	احکام مذاہر	۲۲	حقوق معاشرت (تحفہ زین)	۳۵
شرف العملات مع اعمال قرآنی	۱۰۰	فقہ حنفی کے اصول و ضوابط	۲۳	آداب افنارو و استفباء	۲۵
اسلامی تہذیب اور آداب زندگی	۲۰	آداب افنارو و استفباء	۲۲	آداب خط و کتابت	۱۵
سود، رشوت، توصیل کے شرعی احکام	۱۵	احکام شب برأت	۱۵	احکام شہریت	۱۵
مذہب و سیاست	۳۰	احکام المسجد	۲۷	مسنون رعائیں	۱۷
آداب تقریر و تصنیف	۵۰	حقوق مال (مال خرچ کمیک طریقے)	۲۸	مناجات مقبول جمیع مسائل مفیدہ	۱۷
عورتوں کی تعلیم و کے مسائل	۳۰	احکام الزکوٰۃ والصدقة	۲۹	عید میلاد نبی کی شرعی حیثیت	۱۷
زیرطبع	"	احکام رمضان المبارک مکمل	"	زیرطبع	"
	"	احکام الصلوٰۃ	"		"